




ANNUAL MAGAZINE (2023)

AL HAQQ HUMAN WELFARE TRUST

(REG: 451)



(In the Service of Humanity: Your destination is beyond any destination)




ANNUAL MAGAZINE (2023)

AL HAQQ HUMAN WELFARE TRUST

(REG: 451)

Education



Unity & Integrity

Employment

Environment

Creativity

Love for Mankind

EDITORIAL BOARD



Dr. Masoodul Haque
Patron



Dr. Nakhat Nasreen
Advisor



Mahwish Fatma
Editor



Saima Khanam
Member



Noreen Jaral
Member



Firdaus Chaudhary
Member

MEMBERS OF AL HAQQ HUMAN WELFARE TRUST



Dr. Masoodul Haque
President



Dr. Nakhat Nasreen
Secretary



Firdaus Chaudhary
Joint Secretary



Dr. Ahmad Masood Aziz
Member



Mohammed Shams Alam
Treasurer



Dr. Mohammad Hadi Aziz
Member

CONTENTS

S. No.		Page No.
1	Editorial Board	
2	Members	
3	Message of President	1
4	Message of Treasurer	2
5	From the desk of Secretary	3-5

(ENGLISH SECTION)

6	Self Transformation Journey	Asma Fatma	6-7
7	Unveiling the Magnificent New Parliament Building of India: A Symbol of Modernity and Progress	Nida Waris	8-9
8	Mehfil-e-Deen	Shakira Anwar	10
9	Climate Change & Sustainability	Anwar Ali	11
10	Physiotherapy & Rehabilitation	Humaira Zarin	12
11	Mental Health Awareness	Aliya Afsar	13-14
12	Mother	Arshia Abdullah	15
13	The Death of the World	Maria Farhan	16
14	Pillars of Islam	Zainab Hashmi	17-18
15	Diego Maradona	Zohra Hashmi	19
16	Environmental Facts	Mehreen Ikram	20

(GALLERY)

17	Motivational Lecture (MBD)		21
18	Food Distribution		22
19	HomeTution		23

(HINDI SECTION)

20	पर्यावरण	आयशा आलम	24
21	रखवाले	जेहरा फातिमा	25
22	कविता	जूबीया फातिमा	26
23	जिंदगी	जूबीया फातिमा	26

(CREATIVE ART)

24	Asniya Zaheer		27
25	Kaunain Sarwar & Zainab Yusuf		28
26	Mrs.Gulshan		29
27	Maryam Fatima		30
28	Mrs.Gulshan & Ayesha Ahmad		31
29	Asiah Ahmad & Ayesha Ahmad		32
30	Ayesha Ahmad & Mohd.Yusuf Azeez		33



AL-HAQQ HUMAN WELFARE TRUST

(Reg: 451)

President: Dr. Masoodul Haque PhD (Zoology) Alig.



Dr. Masoodul Haque

MSc, MPhil, PhD (Alig.)

Mobile: +919431885808

Email: mhaqueprlzpu@gmail.com

Message from the President

The Al-Haqq Human Welfare Trust has completed its second year of establishment on 26.07.2023. In its initial phase of journey it has realized many of its objectives to help the minorities and downtrodden lower strata of the society.

Most of the work has been done in the field of education and employment, for instance, in admitting few more children in school along with the continuation of previous years admitted students. In some parts of the country few very poor children are being taught at home by some of our tutors who are paid from the Trust fund. Some fund was spent in marriages of a few needy girls. Moreover some dues of a few children studying in primary schools are also cleared by the Trust. Feeding to the poor was also a task that has been carried out under the aegis of the Al-Haqq Human Welfare Trust. The Trust has also given small loan to some persons for establishing diagnostic centre in area of lower strata of society where people can get their investigations done in reasonable cost. The trust desires to establish many more such centres, academic institutions, medical and health care camps in future.

It is indeed a pleasure that the second issue of the annual magazine of the Trust is being released with more attractive features. Surely the present issue has provided a bigger platform for the expression of talents, creativity, thought and experiences of the people of the community. Let us join hands and come forward in dreaming, pursuing and realizing the dreams of a better tomorrow, better society and a better world to live.

We are grateful for the compassionate support that we get from individuals and we thank them for their dedication and commitment to our cause. We appeal to you to help in whatever way you can, such as donations, Zakat, interest money, adoptions and / or investment etc., in order to do more and more for the cause of humanity.

Dr. Masoodul Haque

(1)



AL-HAQQ HUMAN WELFARE TRUST

(Reg: 451)

Treasurer: Mohammed Shams Alam



Mohammed Shams Alam

MESSAGE

I am delighted to share that the Al Haqq Human Welfare Trust is bringing out its second Annual Trust Magazine, this time for the year 2023. It fills me with great joy to witness the Trust's continued commitment to its mission and the remarkable progress it has made in its social work and day-to-day activities since its establishment.

The magazine serves as a proof to the Trust's dedication to transparency and accountability, allowing us to stay informed about the creative and social works undertaken by the Al Haqq Human Welfare Trust for the betterment of society and the upliftment of those in need.

As we eagerly await the current year's magazine, I am confident that it will highlight even more inspiring stories of the Trust's impact and outreach in the community. Through this publication, we will undoubtedly witness the unwavering efforts and dedication of the trust in making a positive difference in the lives of the underprivileged.

I extend my heartfelt congratulations to the editorial team for their exceptional efforts in bringing this magazine to fruition once again. Their commitment to showcasing the Trust's work is truly commendable, and I wish them all the best for their future endeavors.

May the tradition of the Annual Trust Magazine flourish and continue to inspire others to join hands in making a meaningful difference in the lives of those less fortunate.

M. S. Alam

Mohammed Shams Alam

(2)



AL-HAQQ HUMAN WELFARE TRUST

(Reg: 451)

Secretary: **Dr. Nakhat Nasreen** PhD (Education) Alig



Dr. Nakhat Nasreen

Mobile: +91 8171626218

Email: nnedulink@gmail.com

From the desk of the Secretary

Dear Readers,

The second issue of annual magazine (2023) of the Al-Haqq Human Welfare Trust is in your hands. I am happy to mention that this year a more advanced form of the magazine has come out with some more attractive features. The magazine contains good articles and write-ups in English, Hindi and Urdu languages which give out an expression of culture, humanity, values, self-esteem and so on. As the motive of this trust is to inculcate and enhance creativity in children, the magazine contains a number of essays, paintings, drawings and art done by the children from early primary stage to 12th level. Moreover the creative talents of men and women who are not attached directly to the education (meaning by that they are not in job) but are associated with the system and are thinkers/humanitarian/creative writers and painters have also contributed to this magazine through their valuable contributions. The magazine showcases the vibrant and meaningful aspects of our global community and proves to be a step ahead to produce similar versions in order to bring out the best among us.

So far as the activities and works of the trust are concerned, it has done many works to promote education, employment and charitable works in the past two years. I am grateful to my friends and community members who have contributed generously to the trust fund. Many of us under the umbrella of Al Haqq Human Welfare Trust have done and have become more enthusiastic to do charitable and social work like helping in educating poor children by submitting their dues, distributing clothes and

(3)

food to the needy, assisting me in directly educating the women living in their neighborhood or directly giving tuitions to the children of their households. I think this is a great job done by them in making the chain of charity, social work, education and employment stronger and stronger. Many of them (name not to mention/confidential between me and Allah) have generously contributed in paying fees of poor children, feeding the needy and contributing considerable amount in the marriages of poor girls. May Allah accept our deeds. There are many more works which have been done which I have not mentioned here. But are appreciated by me through the core of my heart. I am indebted to them for their help, support and contributions provided to the working of the trust. As you are aware that the main motive of establishing this trust is to promote education and employment, we are helping out many small institutions (schools) which belong to minority group and are underprivileged. As a secretary and a person who is serving in the department of education, I am personally involved with some schools and am associated with them/helping them through my suggestions and allocating some funds for them. In this regard I would like to draw your kind attention to the fact that these institutions are in dire need of huge funds in order to establish themselves and flourish. I request to you all that please come forward and join hands to uplift these institutions through arranging funds for them. My personal contact number is available on the website of the trust also and in the WhatsApp group. Any one is welcome to contact me in this regard. I also invite you to come out with any constructive idea or suggestion which may serve and benefit the society, community and the humanity at large. I am very happy to mention that one of our volunteers of the trust, Mrs. Husna Siddique (Hyderabad) has started weekly education cum discussion sessions on Islamic teachings. Every Tuesday the group use to choose one topic and discuss in detail in order to promote true education and knowledge and Quran and Hadith related to the current Islamic month. Alhamdulillah this activity has started since the last 6 months and women from neighborhood are being enlightened by such discussions. The trust is providing its services in different parts of the country.

I would like to mention here that in Ujjain city and in Araria district of Bihar two of our volunteers respectively are giving home tuitions to poor children who are not able to pay the required amount of tuition fee, the trust is paying the partial tuition fee of these children who are nearly thirty-five in number. The magazine is available again in both forms hard and soft copies. With great pride I am happy to mention that the credit of its successful release goes to the entire team of the editorial board, specifically to the editor Mahwish Fatma. I am also thankful to all the authors/contributors who have submitted their write-ups in time and with whom contributions the magazine has become a success this year too. I hope that in the forthcoming years also I will receive more cooperation, support and suggestions to come out with successive and better versions of the magazine.


Warm regards,



Dr. (Mrs. Nakhat Nasreen)



English Section



Asma Fatma
Personal Transformation Coach
& Montessori Educator
Email: asmafatma@gmail.com

Self Transformation Journey

I am Asma Fatma, a Montessori Educator and Personal Transformation Coach from Kanpur, India.

Today first time in my life, I couldn't avoid the request to write about the Program "Incredible you" and my "self-transformation journey". I was living a very common life. Each day was same, cooking food, handling household chores, looking after kids and fulfilling my responsibilities as a principal in a reputed school for some salary. To be honest, I was just going round in circles. At times, I questioned myself, "What are you struggling for? Is this the purpose of your life?" I realized that, I once had a vision & a purpose to live, but it faded in my day to day life. I also felt that, there was a need of someone who could set a spark in me and push me forward to take action. And one day Covid pandemic touched the world and all got locked in their homes. I resigned from my job. Living the life of a housewife was cool in the beginning but later my mind started to get bored and irritated to have nothing on my plate. Savings were vanishing, kids were at growing age so I utilized my time and energy on them. But there was some hidden purpose of my life that pinched my heart at times. The time was passing, I was not able to find the way. Procrastination had resulted in severe health issues, immorality and bitter relationships. This created an unproductive family environment that slowly led me into deep depression. Doctors started medicines but in front of kids, I was ashamed that I was unhealthy to do anything good for them during that period. I asked myself and prayed a lot to Allah for what I was doing. Life was going on with almost three month wasted completely in vain. It was a day when one of my brothers suggested me to join an online webinar at zoom Foundation Challenge of Arfeen Khan, a world class renowned strategist and life Coach. The author of 10 books, his course is launched in 40 countries, 600000 lives are influenced by him throughout the world. He has worked with CEOs, Bollywood stars, students, housewives etc. It was like a miracle that I got this chance to come in contact with him. It felt like a ray of hope. Arfeen Khan is such an amazing person, full of human mind mastery and owes deep knowledge of human personalities. It was unbelievable for me that through his short 10 weeks "Incredible You" system we can truly recognize ourselves from Inner DNA, to the living state. Even my habits, behavior, mood swings and the purpose of my life, my targets, objectives and the future destinations all were impacted. I would like to quote the meaning of an Ayah from the Holy Quran wherein Allah says that every creation is made with some purpose. I was wandering and searching for real purpose of my existence. I used to surf on internet for Living in a large joint family and working on different levels where I meet every day with

kids, teenagers, administrators, parents, teachers, I am able to deal with all personalities and their state of mind through my good state, no matter who they are. Changing their moods and making them happy or understanding their behavior is so truly satisfying.

Being a mother of three kids, I was determined to give them the best Tarbiyah (training for a correct life in Islam). "How to deal with my personal issues" and "how to put a feather in my personality, so that people around me start loving me" were the challenges that easily resolved and the credit goes to "Incredible You".

My Baselines helped me in making the decisions. I got rid of all the medicines (Alhamdulillah) and healed up automatically through this journey. Now I have launched my own online learning platform named as, "Blessings Montessori Holistic Academy". The whole environment of my family has been changed. Obviously mothers are the roots of their home. Now every morning I thank Allah that through "Incredible You" I got this power to select my mastermind and throw negativity out of my home. Now I stand strong to protect my family from negativity of the surrounding and set an environment to utilize their time in the best productive ways. Another breakthrough that I would like to share with you is that, my 12 years old daughter Mariyam, who is going through the journey of Incredible You, has been boosted in her self-esteem and confidence. Recently she has published her 4 books (mentioned below) on Bribooks.com:

- The Journey in the volcano
- The Stolen Night part 1
- The Stolen Night part 2
- The Stolen Night part 3

Now she is busy in writing her Auto Biography. It was a surprise for me even.

My 7 years old daughter Hajra is an Enthusiast. She has a lot of scattered energy and diverted focus, but through Incredible You, she has been setting her goals and is now focused on giving the best performance in Abacus.

In the present time it is important to have a look with whom you are living and spending your time. There is an idiom that if you sleep with a dog, you will smell like a dog. Your surroundings impact on your mindset and by passing time you forget who you are? What is the purpose of your life?

Holding a hand of a Coach is too powerful. I live a life full of enjoyment, purpose and commitments. A mind full of wide vision and clarity has created a lot of opportunities for me to add value in other's life, the progress is automatic.

You too get ready to erase all self-doubts, fears, negativity and bad mastermind. Don't be too late and stop making excuses to yourselves. Feel free to express yourselves with your coach, you will see that, your life's painful experiences are turning towards a powerful happy living.

All Thanks to Incredible You & Arfeen Khan






Nida Waris
Research Scholar
Department of Education
Aligarh Muslim University
Aligarh

Unveiling the Magnificent New Parliament Building of India: A Symbol of Modernity and Progress

A Parliament building is a symbol of the country's democracy and its commitment to the rule of law. It is also a place where important decisions are made that affect the lives of all citizens.

India's new Parliament building was inaugurated on May 28, 2023, by Prime Minister Narendra Modi. The building is located in the heart of New Delhi, on the banks of the Yamuna River. It is a modern, state-of-the-art structure that is designed to accommodate the growing needs of the Indian Parliament. The inaugural event was a grand affair. It was a celebration of India's democracy and its commitment to progress.



The Government of India had announced plans to construct a new parliament building as part of the Central Vista project, which aimed to revamp the central administrative area in New Delhi. The new parliament building was designed by architect Bimal Patel and was planned to be a triangular-shaped structure with a seating capacity of 900 to 1,200 members. It was intended to replace the existing Parliament House, which has been in use since 1927 and was considered inadequate to accommodate the growing number of parliamentarians.

The four-storey building has a massive built-up area of 65,000 square meters. It has two chambers, the Lok Sabha (the lower house of Parliament) and the Rajya Sabha (the upper house of Parliament). The Lok Sabha chamber has a capacity of 888 seats, while the Rajya Sabha chamber has a capacity of 384 seats. The building also has a number of other facilities, including offices for members of Parliament, committee rooms, and a library. The construction of the new Parliament building was a major undertaking. It took 2.5 years to complete, and it costs over ₹ 971 crores. The construction was carried out by Tata Projects Ltd., a leading Indian construction company.

A historic golden 'Sengol' or sceptre from Tamil Nadu, received by first Prime Minister of India, Pt. Jawaharlal Nehru as a symbol of the transfer of power from the British, has also been installed in the new Parliament building with the Narendra Modi government projecting it as something that connects Indian tradition with modernity.



The new Parliament building is a symbol of India's growing economic and political power. It is a testament to the country's commitment to democracy and its vision for the future. The building is also a source of pride for the Indian people. It is a reminder of their hard work and dedication, and it is a symbol of their hope for a better future

Here are some of the key features of the new Parliament building:

- The building is made of reinforced concrete and steel.
- The exterior of the building is clad in sandstone.
- The interior of the building is decorated with marble, granite, and wood.
- The building has a number of green features, including solar panels and rainwater harvesting system.
- The building is accessible to people with disabilities also.

The new Parliament building is a major step forward for India. It is a symbol of the nation's progress and its commitment to democracy. The building is also a source of pride for the Indian people. It is a reminder of their hard work and dedication, and it is a symbol of their hope for a better future.



Mehfil-e-Deen*

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim

All praises are for Allah, he is Ar-Rahman, Ar-Raheem.

It brings me immense joy to share my experience in our Mehfil-e-Deen session within our own community. It has transformed me and touched my life in so many ways. We may have heard that Allah guides whom he wills, he is the one who makes it easy for us.

A casual picnic in mid-year 2022 introduced me to some of the beautiful Muslim families living within our community. This is where my journey began with Mehfil-e-Deen. This session happens every Tuesday in our community and is accompanied by ladies who are homemakers, and working women. Even though we all ladies have a busy life, but when it comes to our Tuesday sessions we are all eager to meet each other and learn more about our religion.

Our dear Husna Apa has been leading this session. While we may not be Aalim, we usually go through Hadith like Bukhari. It is a great initiative to keep our Imaan strong. In today's life where Haraam is so common, doing lucrative sessions like these teaches us about how much Allah loves us, how Islam protects us from immorality/transgressions, fighting depression etc. These sessions increase our knowledge about the pillars of Islam, roles and responsibilities of all Muslims, family values, how to improve our salah (Namaz) etc.

These Dhikr (remembrance of Allah) sessions have helped all the sisters to gain knowledge of the teachings of Islam and also share it further with our friends and families. Additionally, it is also been a journey of self-realization and introspection. It is helping us become a better version of ourselves as Muslims and also understand the message of love, compassion and care from our beloved Prophet ? .

During this journey we have built a deep rooted relationship with each other, the sisters are always there for each other, supporting and caring for one another through good times and difficult moments. We have also been having pot-luck lunches wherein we enjoy the delicious home cooked meals.

I thank almighty Allah for all the empathy and compassion in our relationships and May Allah keep guiding us and help us to continue and keep growing the Mehfil e Deen sessions.

**Mehfil-e-Deen is a weekly session of Islamic Teaching organized in Hyderabad under the Al-Haqq Human Welfare Trust. Mrs. Husna Siddiqui, a volunteer of the trust is the organizer.*





Anwar Ali
Assistant Teacher
Titagarh, West Bengal

Climate Change And Sustainability

Climate change is the refining change of our generation. Our climate and sustainability, the most devastating impact of a warming planet demands a steep change. While the task ahead is significant, there are signs that fundamental shift to migrate climate change is well underway, however, change to address climate concerns and broader threat to the planetary boundaries will sweep every industry.

A warming change system is expected to impact the availability of basic necessities like fresh water, food, security and energy while efforts mitigation will similarly inform and shape the global development. The link between climate change and sustainable development is strong. Poor and developing countries, particularly, least developed countries will be among those most adversely affected and least able to cope with the anticipated shocks to their social, economic and natural system. In the approximately 2030 agenda for sustainable development, it is expressed to protect the planet from degeneration and take urgent action on climate change. Increase in global temperature, sea level rise, ocean identification and other climate change impacts are seriously affecting coastal areas and low lying coastal countries. The survival of many societies and of the biological support system of the planet is at risk. The integration of climate change measures into national policies, improvement of education awareness, raising institutional capacity on climate change mitigation, adaptation and so on will probably impact reforms and early warning.





Humaira Zarin
Physiotherapist
Lucknow

Physiotherapy and Rehabilitation: A Noble Profession

All professions existing in this world are equally important as people of different professions make our life easier and happier. Turning to physiotherapy, it is a noble profession. Physiotherapists help people live healthy and in correct way. They make their life free of pain and full of other emotions. Moreover physiotherapists give their patients not only the knowledge and skills required, but also help in making their souls and hearts happy.

Physiotherapy is a discipline that involves the use of physical movement and exercise in the prevention, diagnosis and treatment of a wide range of physical conditions such as musculoskeletal problems for example back pain, neck pain, sports injuries and neurological conditions such as stroke, multiple sclerosis Parkinson's disease etc. It is an important part of healthcare and can help to reduce pain, increase mobility and improve quality of life. It can also help in the rehabilitation of patients who have experienced a traumatic event or illness, such as accident or a heart attack. Physiotherapists use a variety of treatments including manual therapy, electro therapy, exercises for the treatment of patients. People's problems are often more mental than physical and being perfect professionals, physiotherapists help both recover physically and reclaim mental health.

So it should be underlined that physiotherapists are not simple professionals who cure people's body. They are the people who also cure mental problems as rehabilitation is for both mental and physical issues. Physiotherapists give people an opportunity to lead life without pain. Moreover they are valuable for giving people hope. It is the most important function they perform.





Mental Health Awareness

The month of May in India is observed as National Mental Health Awareness Month. Seizing this opportunity I would like to talk about one of the very crucial aspect of one's life which is Mental Wellbeing.

According to WHO, Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Mental health is more than just absence of mental disorder or disability. A healthy being, healthy in all sense, is able to perform daily life activities and works efficiently without any hindrance. And for that one has to have Sound Body + Sound Mind. A mind full with positivity and goodness. Determination and companionship of positive mind makes mind healthy and strengthen it to face hardship. Failure and bad influence of people makes mind unhealthy and continuity of such things starts to drain the efficiency of brain which makes it vulnerable to misery and misfortune. It makes one dull and weak. Without proper help and support, it becomes challenging for an individual to overcome these difficulties. It's a battle with oneself which test all the human capacities from its wit power to its threshold to surrender.

What effects our Mental Health?

Aside from failure and bad influences, stress is main and most ignored reason of unhealthy mind.

What is stress and how to identify if someone is stressed and what can we do?

Stress means feeling troubled or threatened by life, a state of worry caused by difficult situations. Feeling stress is neither harmful nor a bad thing, we just have to know how to cope up without making it worse. One can be stressed for many reason, it could be uncertain future, providing for family, abuse, illness, failure, violence, etc. We all feel stressed in our lives but if that stress is leading you to social withdrawal, social isolation, affecting your studies or work, causing you physical pain like sore neck, pain in shoulder, constant headache, sudden shiver, absent of mind, then one should be alert about its mental health.

What can we do to overcome?

One of the worst effects of stress is losing focus. One can't be seen to focus on anything for too long and can't have full attention over anything. To overcome such situation, one first need to find 'value'. Value is something which is very dear to us or very desirable, something which makes us motivated toward looking forward and keep on making effort. After finding such a value, one must takes small steps to give some quality time to oneself, to reflect on their day, to keep tract of their own life without thinking of anything stressful. It might just take 5-10 minutes to record our daily life and give our self some quality time.

During the healing process, one can try reconnecting to life by doing simple things such as drinking tea with full awareness, by smelling its fragrance, to sip it peacefully, to feel its taste around their mouth. Isn't it quite a simple thing to do? One can also trydoing some recreational activities or travelling to new places or reading books of new genre or learning new skills. One can do anything which makes them feel reconnected to life and enjoy its essence again.

There are various stigma revolving around mental health and it is important for us to educate ourselves and support others in coping with and addressing these challenges.

"Being able to be your true self is one of the strongest components of good mental health."





Arshia Abdullah

Assistant Teacher

DAV High School

Jharia, Dhanbad

Mother

It is not easy to be a mother.

It takes years to maintain this title.

She must be full of energy, patience, struggle, activeness and perfection.

Although she is sad but she seems to be Jovial.

Not good enough for selfie but she is born beautiful by nature.

She sacrifices all her wishes, beauty and youth for her family.

After a long period of time, when she looks into the mirror, she only sees a mother.

She is complete in managing all her outdoor and indoor works.

The emerald eyes of her is like an ocean. ("The freedom is golden and silence is sweet").

She lives her life on her own terms.

Oh! No one can understand and respect her to the levels she deserves.

She deserves all the highest world's honor.

It is not easy to be a mother.



Maria Farhan
Senior Four (Ordinary Level)
(Similar to class 11)
Wanyange Girl's Secondary School
Jinja City, Uganda

The death of the world

The cool, clean breeze ruffles the emerald green leaves,
The wind whooshed by, the trees sway back and forth,
Birds twitter, the crickets chirp; their songs filling the horizon,
The endless azure sky stretches above the tranquil world,
The sun shines casting its golden glow over a deep blue sea
It is an endless prism of colours: green, yellow, blue
And all is serene.

Then, a black fog rises to overcast horizon,
Green leaves turn yellow, the blue waters turn grey,
The sun stops shining but starts blazing instead,
The bird-cricket melody is choked, the soul of the universe smothered,
The silence is deafening!
And a pulsating skeleton at some place, due to all this, takes her last breath.
What have we done to our beautiful world?





Zainab Hashmi

Class: IX

Abdullah Girls High School

Aligarh

Pillars of Islam

Pillars of Islam are fundamental practices in Islam, considered to be necessary acts of worship for all Muslims. There are five pillars of Islam: Shahadah (Faith); Salah (Prayer); Zakah (Almsgiving); Sawm (Fasting); Hajj (Pilgrimage).

- 1 Shahadah is the fundamental statement of faith and commitment made by Muslims that: "There is no God but God (Allah) and Mohammad ﷺ is the Messenger of the God." It distinguishes from those of other faith. In Urdu Shahadah means 'Iman'.
- 2 Salah are the mandatory prayers of Islam which is performed facing Mecca five times a day at dawn, noon, midafternoon, sunset and after dark. Prayers include a recitation of opening chapters (Surah) of the Quran and is sometimes performed on the small mats. Five prayers are: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha.
- 3 Zakah is a system of donating a fixed portion of the income to the people who are in need by the Muslims.
- 4 Sawm is the fasting done by Muslims in Ramadan; the ninth month in Islamic calendar. All healthy adult Muslims are required to abstain from food and drink. Through this temporary deprivation, they renew their awareness of and gratitude for everything God has provided in their lives-including the Quran, which was first revealed in this month. Muslims begin their fasting at dawn (Fajr) and conclude it at sunset (Maghrib).

5 Hajj (Pilgrimage) Every Muslim who are capable (physically and economically) are required to make at least one visit to the Holy city of Mecca. In present day Saudi Arabia. The Ka'ba a cubical structure covered in black embroidered hangings, is at the center of the Haram Mosque in Mecca. Pilgrimage focuses on visiting the Ka'ba and walking around it seven times. It occurs in the 12th month of the Islamic calendar.





Zohra Hashmi
VI-C
Aligarh Public School

Diego Maradona

Diego Maradona was an Argentine football player. He is regarded as the greatest football player of all time. His full name was Diego Armando Maradona. He was born on 30 October 1960 in Lanus Argentina. His height was 165 cm.



He showed his football talent at an early age. When he was only 14 years old, he started playing football. He was the youngest player in history of Argentina Primera Division. He had played in four Fifa World Cup. Argentina won three world cups in the year 1978, 1986 and 2022. Argentina has also been runner up in three times in 1930, 1990 and 2014. Diego became the tournament best player in 1986 and won Golden Ball. He played 490 official club games during his 21 years of professional career, scoring 269 goals. Maradona became the coach of Argentina national team in November 2008. Then he coached Dubai based club Al Wasl in the UAE Pro League for the 2011-12 season. He died on 25 November 2020 in Dique Leyan, Argentina.





Mehreen Ikram
Class-VIC
Carmel School,
Dhanbad

Environmental Facts

- * The world has over 304 billion trees overall. However, 27,000 of them are cut down daily to make toilet paper.
- * About 71% of the earth is water. The oceans hold approximately 96.5% of this water and the ice caps hold about 2%.
- * 78% of marine mammals are at risk of choking on plastic.
- * Americans throw away 25 trillion sty foam cups every year.
- * Fungi play a protective role in the environment by digesting minerals out of rock formation and consuming fossil fuel spills, and even de-radiating the environment.
- * The world has over 7 billion people, and 100 trillion ants.
- * On an average, one supermarket throws two million paper bags each year.







GALLERY




**Motivational Lecture
delivered at Nature Defence Society
Moradabad (U.P.)**



Food Distribution by the Trust



Home Tuition provided by the Trust



**HINDI
SECTION**



Ayesha Alam
Class X
City Montessori
Siwan

पर्यावरण

हमारे चारों तरफ का वह प्राकृतिक आवरण जो हमें सरलता पूर्वक जीवन यापन करने में सहायक होता है, पर्यावरण कहलाता है। यह प्रकृति का विशेष प्रकार का अंग जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़-पौधे, जीव, नदियां, हवा, जलवायु इत्यादि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन सभी से हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन, स्वच्छफल-सब्जियां आदि। जीव जंतु बहुत सी अनावश्यक चीजों को, जो मनुष्य के उपयोग की नहीं है, उन्हें खाकर वातावरण को साफ रखते हैं और नदी से हमें जल प्राप्त होता है जो हमारे बहुत काम आता है एवं हवा जो हमें सांस लेने के लिए सहायता करती है, आदि बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। और यह सभी वस्तुएं आपस में एक कड़ी के समान जुड़ी हुई हैं। हमें इनका सावधानी को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है।

आजकल पर्यावरण को बहुत दूषित किया जा रहा है। पहले के जमाने में हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी विकसित नहीं थी। लोग अपना अधिक से अधिक समय हंसते खेलते बिना किसी परेशानी के गुजार लेते थे। लोग पेड़ पौधे उगाते थे, खेती करते थे जिस के कारण हमें स्वच्छ हवा मिलती थी, वर्षा समय पर होती थी। मनुष्य अपना सफर टांगो बैल गाड़ियों आदि से करते थे जिस से हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहता था तथा लोग निरोगी रहते थे। आज जब कि हमारे जीवन में इतनी सुविधाएं हैं मगर कोई सुखी नहीं है, सभी तनाव ग्रसित हैं। ना ही हमें इतने पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं क्योंकि लोग पेड़ पौधों को काटकर हर जगह घर, कारखाने आदि बनाने में लगे हैं। इससे यह नुकसान है कि पेड़ पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिससे बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं।

इनकी कमी से वर्षा समय पर नहीं हो पा रही है जिस के कारण कहीं कहीं सूखा की एवं जल की कमी देखने को मिल रही है। विशिष्ट प्रकार के उद्योग आ जाने से हमें बहुत नुकसान है जैसे यातायात के आ जाने से सभी लोग उसी का उपयोग कर रहे हैं। टांगे बैलगाड़ी आदि का उपयोग बंद हो गया है। अतः इससे हमारा वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। इसमें पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं जिससे वह अपने में मगन है, उसे दूसरों का ख्याल ही नहीं। यातायात से हमें बहुत सी परेशानी होती है जैसे सड़कों पर ट्रैफिक लग जाना, वायु प्रदूषण जिससे हमें दूषित वायु का सेवन करना पड़ता है तथा ध्वनि प्रदूषण। यातायात से निकलती हुई ध्वनि बहुत तेज आवाज करती है, हमारे कानों को यह ध्वनि बहुत चुभती है। इसके फायदे भी हैं, यह हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में ले जाता है। मगर इसके फायदे कम नुकसान अनेक हैं। पर्यावरण को दूषित करने में कल कारखाने ही नहीं बल्कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन सभी वस्तुओं को मनुष्य की आवश्यकता के लिए बनाया गया है जो मनुष्य के बहुत से कार्य को आसान बनाती है। लेकिन इन के रेडिएशन के कारण पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बहुत सी पक्षियों की प्रजाति तो विलुप्त हो गई है जैसे डोडो पक्षी, गौरैया पक्षी भी बहुत कम देखने को मिल रही है। मनुष्य भी अनावश्यक वस्तुओं को नदी नालों, सड़कों पर इधर-उधर फेंक कर दूषित कर रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा एवं हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमें अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए एवं हमें पर्यावरण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद।

रखवाले (कविता)

देश हमें है अपना प्यारा
हम उसके रखवाले हैं ।
कोई कितनी धौंस जमाले
कभी ना डरने वाल हैं ।
बातवही करते हैं हम
जो पूरी कर दिखलाते हैं।
बड़े-बड़े ताकत वालों को
अच्छा सबक सिखाते हैं ।
नहीं अक्ल के कच्चे हैं
हम भारत मां के बच्चे हैं ।
पावन इसकी चंदन माटी
हम सब शीश नवा नवाते हैं ।
जो भी भटक रहे हम उनको
जो सही राह दिखाते हैं ।
ना आंख दिखाएं हमको
दुश्मन से कभी नहीं घबराते हैं ।
हम भी धुन के पक्के हैं
हम भारत मां के बच्चे हैं ।




कविता



हारना तब आवश्यक हो जाता है
जब लड़ाई अपनों से हो ।
और जीतना तब आवश्यक हो जाता है
जब लड़ाई अपने आपसे हो ।
मंजिल मिले यह तो मुकद्दर की बात है
हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है ।
किसी ने बर्फ से पूछा
कि आप इतनी थंडे क्यों हो ?
बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया
मेरा अतीत भी पानी
मेरा भविष्य भी पानी
फिर गर्मी किस बात पर रखो रखूं ॥

जिंदगी (कविता)

क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा,
हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा,
बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम
कुछ ना भी मिला तो क्या होगा?
तजुर्बा तो नया होगा ।
जो सिर फिरे होते हैं
वही इतिहास लिखते हैं
समझदार लोग तो सिर्फ
उनके बारे में पढ़ते हैं
आसमा में मत ढूँढ
अपने सपनों को,
सपनों के लिए तो जीना जरूरी है....!
सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा
जीने के लिए एक कमी जरूरी है !



**CREATIVE
ART**






Asniya Zaheer
Grade 12,
Indian Central School, Kuwait




Kaunain Sarwar
Class- VI C
St. Joseph's Convent High School, Patna



Zainab Yusuf
Class- VI
B.B.I.T. Public, School




Mrs. Gulshan
F1, Nisha Apartment,
Millat Road, Dodhpur, Aligarh.



Maryam Fatima
Class II
School DPS Dubai



Gulshan
F-1, Nisha Apartment Dodhpur, Aligarh



Ayesha Ahmad
Class VI
Aligarh Islamic School, Aligarh



Asiah Ahmad
Class I
Aligarh Islamic School, Aligarh



Ayesha Ahmad
Class VI
Aligarh Islamic School, Aligarh



Ayesha Ahmad
Class VI
Aligarh Islamic School, Aligarh



Mohd. Yusuf Azeez
IIIrd -C
OLF, Aligarh

محمد اکرام انصاری

اسٹنٹ ٹیچر

بورڈ اردو ڈل اسکول، جھریا، دھنبا د



استاد

استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلبا کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔

انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ معلم یعنی استاد ہے۔ کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سہنا سکھاتا ہے اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔

اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے، تاکہ اسکی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ جب ہمارے رسول ﷺ تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا انکے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔

دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں اور انکی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔

کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔

جاتے، پھر بند کر کے رکھ دیا کرتے۔ بینائی کے اتنا کم ہو جانے کا پتہ مجھے تب ہوا جب ایک دن میں نے انہیں دودھ روٹی کے پیالہ کے کنارے انگلی گھما کر چمچہ تلاش کرتے دیکھا۔ میرا وجود سہم گیا۔ میرے پیروں تلے زمین کھسکتی نظر آئی۔ یہ درد میرا تاحیات رہے گا۔ کسی طرح پٹنہ لایا، لیکن ابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ واپس کشن گنج لوٹے، اور پھر طبیعت کے اسی اتار چڑھاؤ میں کچھ سالوں کے بعد ابا اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔

"ایسا کہاں سے لاؤں کے تجھ سا کہیں جسے"

یہ جھلکیاں قلم بند تو کر دیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کے قارئین کو لگے کے میں نے خود ستائش کی ہے۔ یقیناً ایسے اور بھی ماں باپ ہونگے۔ لیکن غور کیا جائے تو ان باتوں کے پس منظر میں سبق بھی ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اولاد والے ہیں۔ دادا دادی اور نانا نانی بھی ہونگے۔ کیا آج ہم لوگ اس دور میں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اسی سختی، نرمی، محبت اور شفقت سے کر پاتے ہیں؟ لکھنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن کسی محبوب یا محبوبہ کی طرح یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ "تھوڑے لکھے کو بہت سمجھنا"۔



ہمارے محلے کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ بچپن میں ہم لوگوں کو، دوپہر کے کھانے کے بعد دوکان لے جا کر سلا دیتے، تاکہ ہم لوگ ادھر ادھر نہ نکل جائیں۔ بے خبر ہم سو بھی جاتے تھے۔ جلدی اٹھانہ جائے تو روئی کی تتی بنا کر ناک میں ڈالتے اور ٹھٹھے مار کر ہنستے۔

ہم لوگوں کو پابندی سے خط لکھنے کی بہت تاکید تھی اور خطوط کا بہت بے چینی سے انتظار بھی کرتے۔ خط آتا تو فوراً جواب دیتے۔ بڑھاپے میں آنکھوں کی روشنی تو ختم ہو چلی تھی۔ انہوں نے ایک بار بڑے بھائی کو خط لکھا، بال پین میں انک نہ تھی۔ ابا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خط پوسٹ بھی ہو گیا۔ بڑے بھائی حیران کہ یہ سادہ خط کیسا ہے، جب غور سے دیکھا تو کچھ تحریر نظر آئی۔ پھر پین کے نشانات (impression) سے انہوں نے خط پڑھا۔ ہم میں سے کسی کی بھی ذرا سی کھانسی کی آواز سن لین تو فوراً سعالین یا جو شانداہ کی تھیلی آجاتی اور سبھی کو پینا پڑتا۔ اپنا زمانہ دیکھا تھا، جب کھانسی بڑھ کر علاج ہو جاتی تھی۔ ایک بار میری کھانسی لمبی چلی، تاکہ کبھی لمبی ہوتی رہی۔ آخر میں مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو میرا تو خیال کیجئے!

اپنی تکلیف کو بہت کم بتاتے۔ انگریزی دوائیں تو بالکل ہی نہیں کھاتے۔ بڑی جدوجہد کرنی پڑتی۔ ۱۹۹۲-۱۹۹۳ء میں ان کو پیلورک اسٹینوسس (Pyloric Stenosis) ہوا۔ معدے کے آگے کی نلی بند (block) ہو گئی تھی۔ کھانا اترتا نہیں تھا۔ الٹی الٹی ہوتی، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ عمر بھی ۷۵ سے اوپر۔ آپریشن

ہونا طے پایا۔ آپار کا معاملہ تھا۔ مارچ ۱۹۹۳ء میں عید کے دوسرے دن سب کو دعائیں دیتے ہوئے آپریشن کے لیے گھر سے نکلے۔ آپریشن کے دن آپریشن روم کے دروازے تک میں لیکر گیا۔ اور لوگ کچھ دور کھڑے رہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ابا کہنے لگے کہ آپریشن چھوڑ دو۔ نم آنکھوں سے میں کسی طرح کہہ پایا کہ ابا کرا لیجیے۔ دوسرے لمحہ وہ اندر چلے گئے اور ہم لوگ اللہ سے دعائیں کرنے میں لگ گئے۔ آپریشن ہو گیا۔ بعد کی دو راتیں ہم لوگوں پر اور ابا پر بہت سخت گزریں۔ ابا نے ناک میں لگی ٹیوب نکال کر پھینک دی۔ کسی صورت دوبارہ لگائی گئی۔ کچھ سنبھلے تو بصد ہونے کے گھر لے چلو۔ ڈاکٹر اجازت نہ دے۔ کمرہ سے باہر کھلی جگہ میں دھوپ تھی، کہا وہاں بیٹھیں گے۔ لے جائے گئے، پھر واپس کمرے میں جانے کو تیار نہیں۔ گھر لایا گیا۔ آتے ہی کہا کہ یہاں آرام ہے یا وہاں ایک چھوٹے سے کمرہ میں؟ دراصل ہم لوگوں کی دشواریاں ان پر گراں گزر رہی تھیں۔ گھر آتے ہی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ دس دنوں کے بعد ٹانگے کٹے۔ بہت اچھے ہو گئے۔ بھوک کھل گئی، خوب کھانے پینے لگے۔

زندگی کے آخری کچھ سالوں میں آنکھوں کی روشنی بالکل جاتی رہی۔ قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ کبھی کبھی اس پر سر رکھ کر سو

کتنی باتیں ان کے سینے میں دفن رہ گئیں اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ محلّے کے لوگ بھی بہت محبت اور احترام کرتے اور کہتے باپ ہو تو ایسا۔ ابا خود بھی ان لوگوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ کتابیں خصوصی طور پر دینی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ علیگڑھ میں میرے ایک دوست اردو میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ لائبریری سے کتابیں لاتے۔ میرا گھر کا سفر ہوا۔ ایک دو کتابیں ساتھ لیتا گیا کہ وہ پڑھ لینگے۔ جب ابا نے دیکھا کہ لائبریری کی مہر ہے، تو بغیر پڑھے مجھے واپس کر دیا۔ وہ یہ سمجھے میں اٹھالایا ہوں۔

۱۹۸۰ء کی دہائی میں متواتر تین رمضان المبارک میں مہینہ بھر کا اعتکاف کیا۔ اور لوگ بھی شامل ہوئے۔ ایک صبح تہجد میں ایک صاحب دعاء میں مشغول تھے۔ ان کے ہاتھ میں چپکے سے ایک آم ڈال دیا۔

علیگڑھ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اکتوبر ۱۹۸۰ء میں عراق کے بصرہ شہر میں میرا تقرّر مدرس کے لیے ہو گیا۔ اور میں وہاں چلا گیا۔ عراق میں بہت سی زیارت کی جگہیں ہیں۔ ابا نے وہاں آنے کی خواہش ظاہر کی اور آئے۔ ابا کی وجہ سے مجھے تین دنوں کی چھٹی مل گئی۔ عجب اتفاق تھا ان تین دنوں میں ان کو عراق کے کئی شہروں کا دورہ کرا سکا۔ جس میں نجف، کربلا اور کوفہ میں شہداء کے مزاروں کی زیارت کی۔ بغداد میں امام ابوحنیفہؒ، امام موسیٰ کاظمؑ، اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور موصل میں حضرت یونسؑ کے مزارات کی زیارت کی گئی۔ عجب اتفاق ہوتا تھا کہ رہائش سے نکل کر سڑک پہنچے تو بس مل گئی اور پھر اسی طرح سفر ہوتا رہا۔ بصرہ جہاں میں مقیم تھا وہاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے مزارات کی بھی زیارت کی گئی۔ عراق میں میرے کمرہ میں ایک ہی بیڈ تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ زمین پر بھی سولینگے۔ ایسا ایک بار علیگڑھ میں بھی کہا تھا۔ ذرا سوچئے ایک باپ کا ایسا کہہ دینا اور میرا سن لینا کتنی بڑی بات ہے۔

نماز کی ہمیشہ سختی سے تاکید کرتے تھے۔ صبح بے ناشتہ کی عادت تھی۔ عراق کے قیام کے دوران میں صبح جلدی اٹھ کر ابا کے ناشتہ کا انتظام کر لیتا۔ کہنے لگے ابا کو ناشتہ کرانے اٹھ گئے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں! عراق کے قیام کے دوران ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ ابا آپ کو کبھی حضورؐ کی زیارت ہوئی؟ بولے ہاں دو بار۔ نہایت خوبصورت چہرہ، مجھ سے یہی کہا کہ با وضو رہا کیجئے۔

ابا بہت خوددار تھے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں کاروباری حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ بینک سے ۷، ۸ ہزار کا قرض لیا جو اس نہ آیا۔ کلکتہ اور آگرہ کے لوگوں کا پرانا چار چھ ہزار کا بقایا برقرار رہا۔ اپریل ۱۹۸۲ء میں وہاں جا کر ان لوگوں کا پرانا بقایا قرض کا حساب دکھایا۔ سبھی دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ بھول چکے تھے، لینے سے انکار کیا، پھر بھی ابا نے ادا کیا۔

مسعود الحق

ایم۔ ایس۔ سی، ایم۔ فل

پی۔ ایچ۔ ڈی، (علی گڑھ)

Mobile: +919431885808

Email: mhaqueprlzpu@gmail.com



تھوڑے لکھے کو بہت سمجھنا

بات ابا جان کی ہے۔ جن کی یاد میں یہ 'الحق ہیومن ولفیر ٹرسٹ' قائم ہوا ہے۔ نام عزیز الحق، ولدیت محمد مستقیم، پیدائش غازی پور، یو۔ پی کی اور بسے کشن گنج، بہار آ کر۔ جہاں ہم سب گیارہ بھائی بہن پلے بڑھے۔ ۲۰ مارچ ۱۹۹۹ء کو تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ۱۷ جون ۱۹۵۷ء کو بذریعہ ایس ایس ایس سعودی نامی پانی جہاز، بمبئی سے جدہ حج کوروانہ ہوئے۔ تب سے لوگ انہیں حاجی صاحب پکارنے لگے تھے۔ بہت ہی شفیق اور اس کے برخلاف کہیں زیادہ تہذیب و تربیت کے معاملات میں سخت تھے۔ اکثر ان معاملات کو لیکر ہم لوگوں کی پٹائی بھی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی بہت، یا پھر ابا خاموش ہو جاتے تھے، جو اور بھی درد دے دیتا تھا اور تنبیہ بہت گہرائیوں تک ہو جاتی تھی۔ کھانے کھلانے کے بہت شوقین تھے۔ بچپن میں اکثر سردیوں کی دوپہر میں کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھ کر سترے کھلایا کرتے اور چپکے سے ہم لوگوں کی آنکھوں میں چھلکے کارس ڈال دیا کرتے۔ آم تو ان کا محبوب ترین پھل تھا۔ کھاتے کھاتے کبھی ہنس کر کہتے تھے کہ پتہ نہیں جنت میں آم ملے گا یا نہیں۔

گنتی کے چند لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ بھی اتوار کے دن چند گھنٹوں کے لیے۔ جوتے کی ایک دوکان ذریعہ معاش تھی۔ پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ محدود آمدنی کے باوجود نو دس سال کی عمر میں ہی ہم لوگ گھر سے بہت دور دہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ اسکول، ابتداءً تعلیم کے بھیج دیے گئے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ کتنا سخت دل باپ ہے اتنی کم عمر میں ہی بچوں کو اتنی دوز بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم بھائی بہن، گو عمر دراز ہو چلے ہیں لیکن الحمد للہ زندگی میں ایک مقام حاصل کیا۔ محدود وسائل کے باوجود ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ حاجی صاحب کو تو دنیا ہی میں جنت مل گئی۔

وقت کے بے حد پابند تھے۔ سفر کو چھوڑ کر شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ان کے روزمرہ کے معمولات میں دس منٹ کا بھی فرق رہا ہو۔ رات نو بجے کے آس پاس بستر پر چلے جاتے اور آخری شب ایک بجے کے آس پاس اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔

مجھے اپنے بچپن کی یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ ہر جمعہ کو ابا پابندی سے، اُس زمانے میں سات روپے نکال کر یہ کہتے ہوئے دیتے تھے کہ بابا کو دے دو (یعنی دادا کو)۔

بہت کم گو تھے اور سیاست سے بہت دور۔ حساس بھی بہت اور ہر بات کو بہت گہرائیوں تک سمجھتے تھے۔ لوگوں کی نہ جانے

- 4- معذوروں اور اپاہجوں کے وظیفے مقرر کیے جائیں۔ انکی تعلیم کا ہر مرحلے تک مفت انتظام کیا جائے۔ انکی رہائش کا مفت انتظام اور مفت علاج ہو۔
- 5- بے روزگاروں کو وظیفے کے ساتھ کام دلایا جائے۔
- 6- حادثات کا شکار ہونے والوں کو معاوضہ اور تحفظ دیا جائے۔
- 7- بد اخلاقی پیدا کرنے والی فلموں پر روک لگائی جائے۔
- 8- پرسنل لاء کا تحفظ اور اسکی گارنٹی۔
- 9- اردو زبان کو بہار، یوپی، دہلی، راجستھان، مدھیہ پردیش اور آندھرا میں دوسری سرکاری زبان قرار دیا جائے جائے اور اردو کا مسئلہ مرکز کے ہاتھ میں رہے ریاستوں میں نہیں۔
- 10- اقلیتی بورڈ بنائے جائیں جو اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے اور مقاصد کو پونا کرنے کیلئے کام کرے۔



مسلمانوں کی خستہ حالت کا احساس کر کے "سینٹرل انڈیا مسلم بلاک" کے نام سے ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی جو تمام مسلمانوں کی مشکلات پر غور کر کے اسکا علاج تجویز کر سکے۔ اسکے صدر مولانا سعید اللہ رضی تھے اور سیکریٹری مولانا مسعود احمد صدیقی۔ پھر مارچ 1940ء میں سینٹرل انڈیا مسلم بلاک کی کانفرنس اجین میں رکھی گئی جس میں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی اور پورے تین دن کے غور و فکر، بحث و مباحثہ اور مشورہ کے بعد طے پایا گیا کہ تمام مسلمانوں کے بدتر حالات کو عمدہ حالات میں اس طرح تبدیل کیا جاسکتا ہے کہ تمام مسلمانوں، انکے بچوں اور عورتوں کو کم سے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنایا جائے اور انکے سامنے زندگی بسر کرنے کے ایسے طریقے پیش کیے جائیں جن پر عمل کر کے وہ اپنے مذہب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی بھوک، پیاس، بیکاری، بیروزگاری اور مفلسی کو دور کر سکیں۔ چنانچہ کانفرنس کے بعد مسلم بلاک نے اپنی تمام توجہات انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے وقف کر دیں اور جناب مولانا مسعود احمد صدیقی صاحب نے اجین شہر میں ایک اپیل عوام کے سامنے رکھی اور مسلم بلاک جس طریقہ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسکا ذہنی نقشہ پیش کیا تا کہ تمام لوگ اُس مقصد کو حاصل کرنے میں مسلم بلاک کا ہاتھ بٹائیں اور اپنی قوم کی بہبودی اور بھلائی کیلئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اپنا اسلامی فرض نبھائیں۔

انہوں نے مسلم بلاک کا مکمل دستور اور اسکے عمل میں لانے کا پروگرام پیش کیا۔ مسلم بلاک میں چار شعبہ قائم کئے جائینگے تاکہ ہر مسلمان اپنے اللہ کی اور اسکے رسول کی پیاری باتوں، سچی نصیحتوں اور پاک ہدایتوں کو سن کر عمل کرے اور سچا مسلمان کہلا کر اپنی عظمت اور عزت کی حفاظت کر سکے۔

جناب سولانا مسعود احمد صدیقی صاحب تقریباً دس سال تک اس بلاک کے صدر رہے اور اپنی منظم سوچ اور وسیع نظریہ سے صرف شہر کے ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کیلئے وہ اپنی ہمدردی رکھتے تھے۔ آج کے حالات کے مد نظر جو باتیں اسوقت انہوں نے سوچی تھیں وہ سماج کی قومی یکجہتی کیلئے اسوقت کسی غذا سے کم نہیں ہیں۔ جتنی ہمدردی وہ اپنی قوم سے رکھتے تھے اتنی ہی محبت وہ اپنے وطن سے کرتے تھے۔ اپنی ڈائری یاد رفتہ میں وہ اپنے آپکو فدائے وطن سے بھی مخاطب کرتے رہے ہیں۔ اور آزاد ہندوستان کی ترقی اور عروج کیلئے کچھ پروگرام لکھ کر مرکزی حکومت کو بھیجے تھے جو سماجی اصلاح کیلئے اسوقت ضروری تھے مگر آج بیکار ضروری ہیں۔ انکا کہنا تھا کہ

1- چھو چھوت کے خلاف سماجی سطح پر پورے ملک میں اسکیمیں تیار کی جائیں۔

2- ہر سطح پر شراب بند کی جائے۔

3- رشوت کے خلاف اخلاقی اور قانونی مہم چلائی جائے۔

ہر مسائل کو حل کیا ہے۔ اُن کی زندگی میں اس شہر کا ہر باشندہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے سر پر اپنائیت اور الفت کا ایسا سایہ محسوس کرتا تھا، جو اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے باعثِ رحمت ہوا کرتا تھا۔ جس کسی کو بھی دن رات کے کسی بھی پہر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہوئی بے جھجک ان کے دروازے پر چلا آیا اپنی فریاد لے کر اور ہمیشہ ہی بے لوث ہو کر ہر ایک مسئلے کو سنا گیا۔ غور کیا گیا اور راحت کا راستہ فراہم کیا گیا۔


ضرورت کے حساب سے حکومت کے سامنے وقتاً فوقتاً انہوں نے لوگوں کی آواز کو بلند کیا اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہی حکومت کے سامنے اگر گرجے ہیں تو برسنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ مگر کمال یہ تھا کہ حالات کو کبھی بھی اپنے سے بے قابو نہیں ہونے دیا پھر چاہے وہ مجمع ہزاروں کر رہا ہو یا لاکھوں کا۔ انکی جادوئی اور آتشیں شخصیت کا جتنا اثر شہر کے اندر ہر شخص پر تھا اتنا ہی خوف حکومت کے اندر بیٹھنے والے ہر آدمی کو ہوتا تھا۔ جہاں حکومت کے اندر کوئی انکے خلاف جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا وہیں قوم کے اندر سے اُٹھتی ہوئی مخالفتوں کو ہمیشہ ہی انہوں نے قوم کی لاعلمی اور نادانی سمجھ کر نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ اپنی نیک دلی، نیک نیتی اور رحم دلی سے انہیں شرمسار بھی کیا۔ مشکل سے مشکل دور میں بھی انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ اپنے ہی قوم کے کچھ لوگوں کے لگائے ہوئے الزامات پر بھی کوئی ایسی نازیب حرکت نہیں کی جس سے انکے والدین اور انکی تربیت پر کوئی انگلی اٹھا پاتا۔ اپنے لوگوں سے ملی ہوئی تکلیفوں اور رسوائیوں سے رنجیدہ تو بہت ہوئے مگر اپنے غصہ اور غم کو اس ایمان کے ساتھ برداشت کر گئے کہ حدیشیں گواہ ہیں کہ نبیوں کو بھی قوم نے بے داغ نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیت اور حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی قوم کیلئے اول سے پیشتر رکھا۔ وہ قوم کی ہر اس برائی کو دور کرنا چاہتے تھے جو بد قسمتی سے ہماری قوم کے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ انہیں اس چیز کا بخوبی احساس بھی تھا اور تکلیف بھی تھی کہ سب سے بڑی اور خطرناک کمزوری قوم کا تعلیم یافتہ نا ہونا ہے اور ڈر تھا کہ قوم جہالت کی وجہ سے گمراہیوں کے راستے پر بھٹک کر ان گنت الجھنوں میں الجھی نہ رہ جائے۔ اسلئے اُن دنوں وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی بھی طرح اگر قوم تعلیم کے راستے کو اپنالیتی ہے تو دوسری کئی کیمیاں اور تکلیفیں اپنے آپ ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ اسلئے اُن دنوں انکی فوری اور خصوصی توجہ قوم کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی رہی، خاص طور سے عورت کی تعلیم۔ وہ قوم کی لڑکیوں کو تعلیم اور جدید تعلیم دینے پر زور دیتے تھے۔ انکی ہر ممکن کوشش رہی کہ لڑکیاں رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد ہو کر تعلیم یافتہ بنیں اور خدا اعتماد ہوں۔ وہ گھروں میں مسئلہ بن کر نہ رہ جائیں بلکہ گھروں کے مسائل کو حل کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھیں۔ قوم کی بھلائی اور بہبودی کیلئے وہ دل و جان اور مال سے لگے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ کام بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے، اس لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کام کی شروعات کی۔ اپنی طالب علمی کے دوران جو کتاب "یادِ رفتہ" لکھی ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ 26 جون 1939ء کو اجین میں تمام ہندوستان کے

یادِ ماضی



"بچھڑے وہ اس طرح کہ رت ہی بدل گئی
اک شخص سارے شہر کو ویران کر کیا۔"

یہی جناب مولانا مسعود احمد صدیقی صاحب کی ہر دل عزیز شخصیت کا بخوبی بیان ہے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی انکے جانے کا نہ درد کم ہوا ہے اور نہ ہی گھر اور شہر کی ویرانی سمٹی ہے۔ وہ بہت عظیم اور نایاب شخصیت کے مالک تھے۔ بہت سلیجھی ہوئی ذہنیت، بہت قابل اور بے حد دور اندیش، بہت دھیمے میٹھے الفاظ کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں بڑے بڑے مسائل کو کم سے کم وقت میں حل کرنے کی قابلیت اپنے اندر رکھتے تھے۔ پھر وہ مسائل مذہبی ہوں سیاسی ہوں یا سماجی۔



انکی شخصیت جتنی پرکشش تھی، انداز اتنا ہی سادہ تھا۔ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ بڑے سے بڑا شخص ہو یا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، جو انہیں ایک بار ملتا وہ ہمیشہ کے لئے انکا ہو کر رہ جاتا۔ انکے دروازے پر آنے والا ہر شخص ان کے لیے بہت اہم ہوتا تھا۔ بنا اس فرق کے کہ اس کی ذات، اس کا مذہب یا اس کا رتبہ کیا ہے انہوں نے اپنے شہر کے لوگوں میں کبھی بھی تفریق نہیں کی۔ چھوٹا بڑا، امیر غریب، ذات مذہب ان کے لیے بے معنی تھے۔ سماج

کے ہر طبقے کے لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کا بھی وہ اس طرح خیال رکھتے تھے جیسے کوئی اپنے گھر کے لئے کرتا ہو۔ ملک کے جتنے بھی خطرناک حالات رہے ہوں مگر اپنے شہر کی بچہتی کو بہتر سے بہتر بنانے رکھنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ملک کی فضا خراب ہے۔ تاکہ اپنے ہی شہر میں وہ سہا ہوا سا نہ رہے۔ ہمیشہ ہی پورے شہر میں اپنی موجودگی سے یہ احساس دلاتے رہے کہ "میں تمہارے ساتھ ہوں"۔ جو شہر آج اپنے آپ کو ویران اور تنہا محسوس کرتا ہے، اُن دنوں اُنکی زندگی میں اس شہر کی رونق اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو ہندوستان کے اندر کئی شہروں میں اُن کے سیاسی کارنامے تاریخ کے سنہرے الفاظوں میں روشن ہیں، مگر خاص طور سے آجین شہر ان کی زندگی ایک مثالی شہر کی طرح گزری ہے۔ یہاں انہوں نے ایک ذمہ دار شہری کی طرح



اور وہ مسکرا رہی تھی

بھائی بہنوں میں اسکا نمبر دوسرا تھا۔ ننھی سی عمر۔ ابا دفتر میں ملازم تھے۔ شہر سے دور باہر کام پہ جانا ہوتا تھا۔ سینچر دیر رات واپس آتے۔ سوموار تڑکے دفتر کے لیے روانہ ہو جاتے۔ بچے انتظار میں رہتے۔ تھکے ماندے ابا آتے ہی سو فہ پر لیٹ جاتے۔ بچے چوزوں کی مانند انکی کمر، پیر اور کندھے پر بیٹھ جاتے۔ ابا کی تھکان دور ہوتی۔ بچوں کا دل باغ باغ ہوتا رہتا۔ پورے ہفتہ انتظار کے بعد بچوں کو ایک دن ابا کے ساتھ گزرنے کا موقع ملتا۔ ان کی تو گویا عید ہی ہو جاتی۔

بچوں کی اماں کو بھی بچہ انتظار رہا کرتا۔ ہر اطوار انکے لئے عمدہ عمدہ پکوان کا اہتمام کرتیں۔ وہ ہفتہ بھر ابا کو تصور میں لئے رہا کرتی۔ روزانہ ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ابا کے لئے روٹی پکاتی، اپنے ہاتھ سے انکو کھلاتی۔ انکا لٹن باکس تیار کرتی۔ سر میں کنگھا کرتی، چہرے پر پاؤڈر لگاتی، انکو دفتر کے لئے روانہ کرتی۔ اس طرح تینوں بچے انتظار میں رہتے۔

اتوار کو سبھی جلدی جلدی تیار ہو جاتے۔ آخر کیوں نہ ہوں، آج تو ابا اماں کے ساتھ چڑیا خانہ، پارک اور میوزیم (عجائب گھر) جانے کا دن ہوا کرتا۔ خوب سیر ہوتی۔ اماں کا ساتھ تو خوشیوں کو دو بالہ کر دیتا۔ پھر کیا تھا اب لگتا کے دن منٹوں میں گزر گیا۔ آج شام بھی بہت جلد ہو جاتی۔ پھر وہی ہفتہ بھر کا انتظار۔

سوموار کی صبح بچے مایوس ہو جاتے۔ ابا بھرے دل کے ساتھ سبکو خدا حافظ کہہ کر اپنے کام پر روانہ ہو جایا کرتے۔ دن ہفتہ میں، ہفتہ مہینے میں اور مہینہ سال مے بدلتا رہا۔ ایک دن ابا نے سمجھایا بیٹا گھر سے رخصت کرتے وقت مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہیں۔ بیٹی کی سمجھ میں بات آگئی۔ صونج جب روانگی کا وقت آیا تو بیٹی نے ابا کو مسکراتے ہوئے بڑی معصومیت سے خدا حافظ کہا۔ اسکی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔

رکھا تھا۔ دین سے محبت ہی اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے محبت کو مجبور کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قدرتی مناظر کو والہانہ پسند کرتی تھیں۔ موسموں کا لطف اٹھانا اور خوبصورت مناظر کو نہارنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وقت نکال کر پہاڑوں پر جانا پسند کرتی تھیں۔ خوبصورت اور رنگ بھریں پھولوں میں خدا کی خوبصورتی تلاشتی تھیں۔ اپنے چاروں طرف ہریالی دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرنا انہیں لبھاتا تھا۔ خوشگوار موسم اور ماحول انہیں پسند تھا اور وہ رنگوں کی شوقین تھیں۔ ان کا رہن سہن ان کی شخصیت کو نکھارتا تھا۔ محفلوں اور خاص طور سے ادبی محفلوں میں جانا انہیں پسند تھا۔ ان محفلوں میں شرکت کا نظریہ سماجی تعلقات بہتر کرنا بھی ہوتا تھا۔ آس پڑوس، محلہ داری اور رشتہ داری نبھانا انہیں بخوبی آتا تھا۔ گھر پر مہمانوں کے آنے سے بہت خوش ہوتی تھیں۔ خاطر داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ اچھے اور پسند کے کھانوں کی شوقین تھیں۔ خود ان کے بنائے ہوئے کھانوں کی لذت خاندان میں مشہور تھی۔ اصولوں کی پابند تھیں اور بڑے چھوٹے کے احترام کو ترجیح دیتی تھیں۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ان کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ ان کے دوست احباب اور بہت قریبی لوگ ان چیزوں کو ضرور لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔

اپنے بزرگوں سے سیکھنے کے لئے ہم سب لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بشرطیکہ دل میں دین، ایمان، اسلام کے ساتھ ساتھ قوم کے لئے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو۔ مجھے مایوسی ہے کہ پھوپھی جان کے ساتھ میرا بہت ہی کم وقت گزرا ہے، مگر خوشی یہ ہے کہ بہت اخیر وقت میں لکھی ہوئی چیزیں انہوں نے پڑھیں اور بے حد پسند کیں اور آگے لکھتے رہنے کی دعائیں دیں، میرے حوصلے کو بڑھایا۔ بہت شکر یہ میری پھوپھی جان۔ اللہ جنت الفردوس میں آپ کے درجات کو بلند کرے۔ (آمین)

دعائے مغفرت کے ساتھ

حسنی صدیقی



جن کی انقلابی سیاسی زندگی اور بے مثال سماجی، مذہبی اور قومی کارناموں نے انہیں اُس قطار میں کھڑا کر دیا جہاں کروڑوں پرستار آج بھی ان کی کمی کو دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دوسرے معزز بھائی مرحوم مولانا حماد احمد صدیقی جن کی دینی صلاحیتوں کا لوہا شہروں میں مانا جاتا تھا۔ تیسرے بھائی ڈاکٹر انوار احمد صدیقی نے بھی اپنی طبیبی خدمات شہر کے لوگوں کو دی ہیں۔ ان کی دونوں بڑی بہنیں مرحومہ راشدہ بیگم اور محترمہ صالحہ منیب دونوں کی شادیاں بہت عزت دار اور قابل گھرانوں میں ہوئیں۔ اور ان دونوں بہنوں نے بھی اپنی صلاحیتوں سے گھروں کی شان کو قائم رکھا۔ بچوں کو عمدہ تعلیم اور تربیت دے کر خاندان کے مرتبے بڑھائے۔

مبارک باد کا مستحق ہے ان کا معزز سسرال اور اُس گھر کے رہنے والے قابل اور باکمال لوگ۔ خاص طور سے ان کے معزز شوہر مرحوم جناب خواجہ ذکی صاحب جنہوں نے روایتوں کے خلاف جا کر ان کی امیدوں کو چمک اور ان کے حوصلوں کو مضبوطی دے کر ترقی کی راہیں ان کے لیے آسان کیں۔ ساتھ ہی اس حویلی میں رہنے والے وہ تمام لوگ جو اس وقت میں ان کی کامیاب زندگی شروع کرنے کی جدوجہد میں ان کے ساتھ مشغول رہے تھے۔ ایسا ہی ایک باکمال نام میری بڑی بہن شاہدہ صدیقی کا ہے، جو ان کے شروعاتی دور میں ہمیشہ ان کا سایہ بن کر رہیں۔ لیکن سب سے مستحکم ساتھ اور مضبوط سہارا نہیں لطیف بھائی سے ملا جو خوش قسمتی سے ان کے داماد بھی ہیں۔ یہ رشتہ بھی ان کی دوراندیشی کی مثال ہی ہے۔ شاید اپنی بیٹی کی دنیا میں آنے پر ہی انہوں نے لطیف بھائی کو اپنا داماد بنانے کا سوچ لیا تھا اور اسی طرح اپنی بیٹی کی پرورش بھی کی۔ ان کے چہرے پر فخر نظر آتا تھا امیہ باجی کو دیکھتے وقت اور لطیف بھائی کو اپنا داماد بنا کر انہیں فخر ہونے لگا تھا۔ اور ہر دور اور ہر وقت میں ان کا سہارا بن کر لطیف بھائی نے ان کے گمان کو بڑھایا ہے۔ ان کا بیٹا عبداللہ ہمیشہ ہی ان کی زندگی کا مرکز تھا مگر آخر کے کچھ سالوں میں تو عبداللہ کے آس پاس ہی ان کی زندگی سمٹ گئی تھی۔ بہت شاباشی اور مبارکباد ہے عبداللہ اور انکی شریک سفر عظمیٰ کو جنہوں نے اسلام، ایمان اور نیکی کی راہ پر چل کر اخیر وقت میں ماں کی خدمت کے فرائض اور حقوق خوش اسلوبی سے ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو خوشیوں سے نوازے۔ (آمین)

ایک نہایت ہی خاص چیز جو محترمہ صادقہ ذکی کی شخصیت کو اُس زمانے میں بھی اور آج بھی ہزاروں ترقی پسند عورتوں میں ان کو جدار کھتی تھی وہ یہ ہے کہ تعلیم اور ترقی کی راہ پر بڑھتے رہنے کے ساتھ انہوں نے دین اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پنج وقتہ نمازوں کی دل سے پابندی اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے اسلامی فرائض کو انہوں نے کبھی بھی وقت ملنے اور نہ ملنے کی شرائط سے نہیں جوڑا۔ (جو آجکل خاص طور سے تقریباً تقریباً کچھ کو چھوڑ کر ہر پڑھی لکھی عورت کی اللہ سے بے خوف ہو کر بہت بے شرمی سے دی گئی وجہ ہوتی ہے)۔ دینی فرائض کو انجام دینا انہوں نے اپنے اوپر یقینی کر

پروفیسر صادقہ ذکی - ایک شخصیت



مقررہ وقت کی بے رحم اور تلخ سچائیوں کے سامنے سر جھکانا ہی ایمان کی بلندی ہے۔ ہزاروں مایوسیوں کے ساتھ یہ اعتراف کرنا ہی ہے کہ ایک اور ادبی ستارے نے ہر پیل مدھم ہوتی اس ادبی دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو کر اُس جھلملاتے آسمان پر اپنی نمایاں جگہ بنائی ہے، جہاں اس ادبی دنیا کے ان گنت ستاروں نے اپنے اپنے وقت میں گزاری ہوئی اپنی پراثر زندگی کے بے شمار پرکشش نشانات اپنے پرستاروں کے لیے چھوڑے ہیں۔ ذکر ہے مرحومہ محترمہ صادقہ ذکی کا۔ ان کی پُر وقار زندگی کا سفر ان کے حوصلوں کی اڑان تھا۔ اس وسیع اور کھلے آسمان میں ان کی پرواز اس لیے بھی نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ دور آج کا نہیں تھا۔ وہ دور روایتوں اور رسموں سے بنا ہوا تھا۔ جکڑے ہوئے اصولوں کے دائروں سے باہر نکلنے اور بندشوں سے آزاد ہونے کی مختلف سوچ رکھنے کو ہی لوگ جڑتوں کا نام دے



دیتے تھے۔ اس وقت میں یقیناً ان کا سفر آسان تو بالکل نہیں رہا ہوگا۔ کامیاب زندگی جینے کا جذبہ اور اسکی منظم سوچ نے ہی انہیں اس وقت دورا ہے پر لاکھڑا کیا ہوگا۔ آنے والی تکلیف اور پریشانی کا اندازہ لگانا اور پھر عظیم کی اس راہ کا انتخاب کرنا اور کمال یہ کہ اس پر کامیاب بھی ہو جانا، اُن کی مکمل سوچ کے ساتھ اُن کے مضبوط حوصلوں کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک زندگی کو کامیابی کے اس مقام پر لانے کے لیے انہوں نے ہزاروں خواہشوں کو دبایا ہوگا۔ کئی بار نہ چاہتے ہوئے کچھ سمجھوتے بھی کیے ہونگے، تو کئی بار اُن کے جذبات

مجروح بھی ہوئے ہوں گے۔ وقت کے یہی اتار چڑھاؤ تو دل پر وار کرتے ہیں، مگر زندگی کو نکھار کر نئے مقام بھی دیتے ہیں۔ کامیابیوں کے نشانات میں اتنی پیش چھوڑتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کی گرامہٹ کو محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جوش و جذبہ، یہ جسارتیں اور کچھ کر گزرنے کا جُون انہیں وراثت میں ملا ہے۔ انہیں حاصل تھا شرف اُس بے مثال باپ مفتی مرحوم جناب محمود احمد صدیقی کی بیٹی ہونے کا، جسے بے شمار علمی صلاحیتوں کی وجہ سے مقدس مدینہ منورہ میں امامت کا رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اور اس بھائی مرحوم مولانا مسعود احمد کی بہن ہونے کا بھی شرف حاصل تھا

نصیب میں نہ کبھی سنورنا ہوتا

اچھا ہوا کہ مرگئی

جیتی تو روز روز مرنا ہوتا

کبھی جہیز کے نام پر سولی چڑھائی جاتی

کبھی وحشی درندوں کے ہاتھوں زندہ جلائی جاتی

کبھی اپنوں سے ہوتی بے بس

کبھی غیر کرتے رسوا

کبھی سماج کی بندشیں کرتیں اسے پریشاں و پسا

کبھی نا اہلوں کے ہاتھوں لکھی جاتی اس کی تقدیر

کبھی ظلم و بربریت کی پیش کی جاتی انوکھی نظیر

ہر پل آگ کا دریا پار کرنا ہوتا

اچھا ہوا کہ مرگئی

جیتی تو روز روز مرنا ہوتا

کبھی تو گھر سے نکالی جاتی

کبھی تو آبرو کا کھلونا ہوتا

کبھی کسی چوک کسی چوراہے پر

پریشاں و حراساں

گھنٹوں بلکھتی موت کی آرزو میں

زندگی سے بدگماں ہوتی

ہر آن ایک وحشت سے گزرنا ہوتا

اچھا ہوا کہ مرگئی

جیتی تو روز روز مرنا ہوتا



ڈاکٹر راحت زمانی، پٹنہ

پی۔ ایچ۔ ڈی مینس اسٹڈیز

اے۔ ایم۔ یو، علی گڑھ

rahatdrzamani@gmail.com

بنتِ حوا کے نام

اچھا ہوا کہ مرگئی

جیتی تو روز روز مرنا ہوتا

کبھی تو کوکھ میں ہی ماری جاتی
اور کبھی جو گرد دیکھ لیتی صبح کی دھوپ
تو پھر زمیں میں زندہ گاڑی جاتی
اور گر جو بیچ جاتی پھر بھی
تو حالت نہ اسکی بہتر ہوتی
ہر آن ہر لمحہ زندگی میں وہ کمتر ہوتی
وجود کو سمیٹے سمبھالتے

ہر دم ہر قدم

اُسکو بکھرنا ہوتا

اچھا ہوا کہ مرگئی

جیتی تو روز روز مرنا ہوتا

زندگی میں ہمیشہ اُسے "حد" بتائی جاتی
سسرال میں بھی خوب ستائی جاتی
بات بات پر سرزنش ہوتی
کسی لمحہ بھی کم نہ رنجش ہوتی
ذات سے اس کی لوگ رہتے برہم
زخموں پے اس کے رکھتا نہ کوئی مرحم
ہر آن بکھرتی

- ☆ مستورات کو تہذیب و تمدن سے واقف کرانا۔
- ☆ تعلیم نسواں کے ذریعہ معاشرے کو بیدار کرنا اور تعلیم نسواں سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو منظر عام پر لانا۔
- ☆ رسالہ تہذیب نسواں میں لکھے گئے مضامین کے ذریعہ ملک کی خواتین کو بیدار کرنا۔
- ☆ تعلیم نسواں کے شوق کو بڑھانے کے لیے نئے علوم سیکھنے کی ترغیب دینا۔
- ☆ معاشرتی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔
- ☆ مستورات کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنا۔
- ☆ مردوں کو حقوق نسواں کی طرف متوجہ کرنا۔

اس میں شبہ نہیں کہ عورتوں کو بیدار کرنے میں جن رسالوں نے اہم کردار ادا کیے رسالہ تہذیب نسواں ان میں سے ایک ہے۔ اپنے وقت کے لحاظ سے یہ خواتین کا ایک قابل ذکر رسالہ ہے جس کی خدمت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔



"رفاہ عام سسٹم پریس، لاہور۔ مولوی سید علی مالک و نیچر۔ مطبع فی دارالاشاعت پنجاب کی طرف سے چھاپا اور شائع کیا ہے۔" اس رسالے میں بیش تر ایسے مضامین شائع ہوئے جن کا براہ راست تعلق مستورات سے تھا۔ مثلاً: لڑکیوں کی تعلیم، کھانے کی ترکیبیں، عورتوں کی بے تہذیبی کا اعلان، لڑکیوں کے تعلیمی حالات، عورتوں کے حقوق، مذہبی مضامین، خاوند کی بڑائی کو تسلیم کرنا، پردے کی اہمیت اور ضرورت، عام فہم زبان میں خانہ داری، بچوں کی پرورش، حفظانِ صحت، تعلیم نسواں کی اہمیت اور ضرورت اور حمایت، معاشرتی خرابیاں اور ان کی اصلاح، سلیقہ شعاری، ہنرمندی اور انتظام خانہ داری، اغراض و فرائض اور حقوق وغیرہ۔ بہت سی تحریریں موثر اور سبق آموز کہانیوں کی شکل میں ہوتی تھیں۔ وقتاً فوقتاً اس رسالے کے خصوصی شمارے (گولڈن نمبر، جوہلی نمبر و سال گرہ نمبر) بھی شائع ہوئے۔

اس رسالے میں نظمیں بھی شائع ہوتی تھیں۔ اس وقت لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی مگر ان میں زیادہ تر خواتین مضمون نگار ہی کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ اشاعت سے پہلے نوشق قلم کاروں کی تحریروں کی اصلاح بھی کردی جاتی تھی۔ اس کے متعلق ٹیچر سید ممتاز علی رسالہ "تہذیب نسواں" یکم جون 1951ء کے شمارے صفحہ 170 پر لکھتے ہیں کہ:

"لڑکیوں کے مضامین میں اصلاحیں نہ دی جائیں گی تو وہ مضامین نویسی میں آئندہ ترقی کس طرح کر سکتی ہیں۔"

اس رسالے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس میں خواتین لکھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جن میں محمدی بیگم، خدیجہ بیگم، مرتضائی بیگم، نظامی بیگم، ذ۔ بیگم، قیوم بیگم، عابدہ بیگم، طاہرہ بیگم، ح۔ ز۔ بیگم، سکیئہ بیگم، نفیس دلہن، زبیدہ خاتون، اختر جہاں، زینب خاتون، بنت خواجہ غلام عباس کے نام قابل ذکر ہیں۔

محمدی بیگم کے انتقال کے بعد اس رسالے کی تمام ذمہ داریاں ان کی بیٹی آصف جہاں بیگم کے سپرد کردی گئیں اور یہ رسالہ یونین اسٹیم پریس لاہور سے شائع ہونے لگا۔ 1912ء سے 1948ء تک یہ رسالہ اسی مطبع سے منظر عام پر آتا رہا، مگر 1950ء سے اس کی اشاعت میں بے قاعدگی آنے لگی اور مالی مشکلات کی وجہ سے یہ رسالہ بند ہو گیا۔

رسالہ "تہذیب نسواں" کے اغراض و مقاصد:

- ☆ عورتوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا۔
- ☆ خواتین کے اندر تحریری سلاحتوں کو بیدار کرنا۔
- ☆ خواتین میں پردہ کی اہمیت کو واضح کرنا۔
- ☆ عورتوں میں مذہبی تعلیم کا رجحان پیدا کرنا تاکہ وہ شریعت اسلامی سے واقف ہو سکیں۔

1900ء میں عبدالحلیم شرر نے ماہ وار رسالہ "پردہ عصمت" اور 1901ء میں رسالہ "مخزن مستورات ہند" (مدراس) 1904ء میں شیخ محمد عبداللہ عرف پاپامیاں نے رسالہ "خاتون" (علی گڑھ) اور 1905ء میں "رسالہ تہذیب" رام پور سے جاری کیا تھا۔ ٹھیک ایک سال بعد یعنی 1906ء میں "پردہ نشیں" کے نام سے ایک رسالہ آگرہ سے جاری ہوا۔ 1908ء میں علامہ راشد الخیری نے اصلاح نسواں اور فرائض نسواں کے متعلق تین پرچے رسالہ "سہیلی"، "بنات" اور "عصمت" جاری کیے۔ رسالہ "عصمت" 1908ء سے 1968ء تک برابر شائع ہوتا رہا۔ اس کی پہلی اشاعت عبد القادر کے "خزن" پریس سے ہوئی۔ چونکہ ان دنوں رسالہ "مخزن" کی اشاعت اور نگرانی کا کام شیخ محمد اکرام ہی کے سپرد تھا اس لیے انھوں نے ہی رسالہ "عصمت" کی طباعت کی ذمہ داری بھی قبول کی اور پہلی بار انکی ہی نگرانی میں یہ رسالہ شائع ہوا۔ یہ رسالہ پچپن صفحات پر مشتمل اور دو حصوں میں منقسم تھا۔ اس کے پہلے حصے میں مضامین اور دوسرے حصے میں نظمیں شائع ہوا کرتی تھیں۔ اس رسالے کے اجراء کا اہم مقصد عورتوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنا تھا۔ انھوں نے مردوں کو حقوق نسواں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 1911ء میں ایک ماہ نامہ "تمدن" الگ سے جاری کیا۔ رسالہ "تمدن" میں خواتین کے حقوق کی حمایت میں مضامین لکھے گئے۔ یہ رسالہ پانچ سال تک پابندی سے شائع ہوتا رہا اور اس رسالے کو ملک کے تمام مایہ ناز اہل قلم کی عنایت و حمایت حاصل ہوئی۔ ان میں مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، مولانا حالی، احمد علی شوق قدوائی، شاد عظیم آبادی، سرفراز حسین، اشرف حسین، حکیم ناصر علی، اشرف الحق، نظم طباطبائی اور اشرف گورگانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1931ء سے اس کی اشاعت میں بے قاعدگی آنے لگی اور مالی مشکلات کی وجہ سے یہ رسالہ بند ہو گیا۔ 1909ء میں زنانہ ماہ وار رسالہ "الحجاب" بھوپال سے جاری ہوا۔ اسی سال فاطمہ بیگم کی ادارت میں "شریف بی بی" کا اجراء ہوا۔ 1910ء میں صغریٰ ہمایوں کی نگرانی میں حقوق نسواں سے متعلق دو رسالے "النساء" حیدرآباد اور "زیب النساء" لاہور سے جاری ہوئے۔

مذکورہ رسائل کا ضمناً ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارا موضوع رسالہ "تہذیب نسواں" ہے جس کا نام سر سید احمد خاں نے تجویز کیا تھا، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ رسالہ "تہذیب نسواں" 1898ء میں سر سید احمد خاں کے انتقال کے تین ماہ بعد جاری ہوا۔ اس کے بعد یہ رسالہ 1946ء تک بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ اس کی ایڈیٹر محمدی بیگم اور اس کے منیجر سید ممتاز علی آہ تھے۔ اس کی طباعت کی ذمہ داری محمدی بیگم کے سپرد تھی۔ یہ رسالہ اٹھارہ سے بیس صفحات پر مشتمل تھا اس کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں مضامین اور دوسرے میں نظمیں اور کتابوں پر تبصرے شائع ہوتے تھے۔ اس رسالے میں صفحے کے نیچے یہ عبارت درج ہے۔

ڈاکٹر ضیاء فاطمہ

پی۔ ایچ۔ ڈی (اردو) اے۔ ایم۔ یو

عمر پلازا، علی گڑھ



تہذیب نسواں (سر سید احمد خاں کا تجویز کردہ نام)

ہندوستان میں بیداری نسواں کی کوشش انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں ملک میں تعلیم یافتہ مسلم خواتین کا ایک گروہ وجود میں آیا، جس نے تحریک بیداری نسواں کو آگے بڑھانے کے لیے گراں قدر کارنامے انجام دیے۔ اس تحریک میں حصہ لینے والی خواتین میں سلطان جہاں بیگم، عطیہ بیگم فیضی، فاطمہ بیگم، نفیس دلہن اور صغریٰ ہمایوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ اس دور میں مستورات کے چند رسالے بھی منظر عام پر آئے۔ ان میں سب سے پہلا رسالہ 1880ء میں لکھنؤ سے "رفیق نسواں" کے نام سے جاری ہوا۔ یہ عورتوں کا پہلا رسالہ تھا۔ 1884ء میں سید احمد دہلوی نے رسالہ "اخبار النساء" دہلی سے جاری کیا۔ سید ممتاز علی لاہور سے عورتوں کے لیے ایک رسالہ نکالنا چاہتے تھے۔ انھوں نے سر سید احمد خاں سے اس رسالے کے لیے نام تجویز کرنے کی گزارش کی اور کچھ ناموں کی فہرست اپنے خط کے ساتھ روانہ کی۔ سر سید نے ان ناموں کو خارج کر دیا بلکہ اس خیال کو بھی مسترد کر دیا کیوں کہ سر سید احمد خاں اس زمانے میں عورتوں کے لیے کسی رسالے کے جاری کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ البتہ انھوں نے ممتاز علی آہ کی فرمائش پر "تہذیب نسواں" نام تجویز کر کے بھیجا اور اپنے اس خط میں یہ وضاحت بھی کی:

مشفق و محی مولوی سید ممتاز علی!

"عنایت نامہ ملا۔ اگرچہ آپ نے مجھ سے اس بات میں مشورہ نہیں کیا کہ اخبار جاری کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کے نام کی بابت دریافت کیا ہے۔ لیکن چاہے آپ میرا مشورہ پسند نہ کریں مگر میں یہی کہوں گا کہ آپ عورتوں کے لیے اخبار جاری نہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اسے جاری کر کے پچھتائیں گے اور تکلیف، نقصان اور سخت بدنامی کے بعد بند کرنا ہوگا۔ اگر آپ ان سب باتوں کو سمجھ لینے کے بعد جاری کریں تو جو نام آپ نے مجھے لکھ کر بھیجے ہیں ان میں سے مجھے کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ میری رائے میں اگر کوئی اخبار مستورات کے لیے جاری کیا جائے تو اس کا نام 'تہذیب نسواں' ہونا چاہیے۔"

اس خط کو لکھے ہوئے بہ مشکل دو ہفتے ہی گزرے ہوں گے کہ سر سید احمد خاں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے تقریباً تین مہینے بعد یعنی 1898ء میں سید ممتاز علی آہ نے سر سید کے تجویز کردہ نام کو ہی جاری کیا۔

کے موقع سے الیکٹرانک میڈیا میں ”اسٹار نیوز“ اور پرنٹ میڈیا میں ”انڈین ایکس پریس“ نے ظالموں اور مظلوموں، فساد یوں اور بے قصوروں اور قاتلوں اور مقتولوں کے نام ظاہر نہ کیے ہوتے تو شاید کورٹج یک طرفہ ہو جاتی اور صحیح صورت حال سامنے نہیں آ پاتی۔ اس کے لیے وہ دونوں قابل ستائش ہیں۔

اختتام:

نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا اگرچہ مسلمانوں کے تئیں منفی رویہ رکھتا ہے، جس سے اس کے کردار پر دھبہ لگا ہوا ہے، تاہم اس کے مثبت اور نفع بخش رول سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔



یہ تو ایک رخ میڈیا ہے، لیکن یہاں ایک دوسرا چہرہ یہ بھی ہے کہ ستمبر ۲۰۰۲ میں مظفرنگر اور اس کے مضافات میں بھڑکے فرقہ وارانہ فسادات کے موقع سے بہت سی بیٹیوں کی آبروریزی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت یہی میڈیا گونگا بن گیا تھا کبھی بھی اخبارات میں اس حوالے سے خبریں شائع نہیں ہوئیں۔ وجہ صاف ہے دہلی کی متاثرہ لڑکی بڑے گھر کی بیٹی تھی میڈیکل کی طالبہ تھی اور مظفرنگر کی یہ خواتین غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔

یہ فہرست اور طویل ہو سکتی ہے مگر ”عقل مندر اشارہ کافی است“ کے مطابق یہاں محض ایک مثال پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور اب میڈیا کے مثبت رول کو پیش کیا جا رہا ہے۔

میڈیا کا مثبت رول:

(۱) بدعنوانی کا انکشاف:

تیزی سے ترقی کے مراحل طے کر رہے ہندوستان کو بدعنوانی نے پیچھے دھکیل دیا ہے بڑے بڑے سیاست داں کچھ عرصہ سے کالا مال یہاں سے لے جا کر سٹوس بینکوں میں جمع کر رہے ہیں اور اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اس موقع پر میڈیا نے بہت اچھا رول نبھایا اور بدعنوانی کے کئی واقعات سے پردہ اٹھایا۔ چنانچہ ۲۰۰۲ جی اسپیکر گھوٹالا، آدرش سوسائٹی ہاؤس گھوٹالا، کونڈہ گھوٹالے کا راز فاش کرنے میں میڈیا نے قابل ستائش کردار ادا کیا ہے اور اسی میڈیا کی بدولت آج بہت سے بدعنوان سیاست داں اور افسران جیل کی ہوا کھانے پر مجبور ہیں۔

(۲) باباؤں اور دوسرے معزز افراد کی حقیقت کشائی:

تعب ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ جھوٹے باباؤں کے فریب میں آجاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں ایسا ہی کچھ بابا آسارام کے ساتھ تھا، لوگ اسے بھگوان اور نہ جانے کیا کیا مانتے تھے کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بابا گیری کی آڑ میں یہ شخص کیس گندی حرکتیں کر رہا ہے اور حیرت تو یہ ہے کہ اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے کسی متاثرہ نے اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کی، مگر آخر یہ طلسم ٹوٹا اور ایک لڑکی نے اس کے خلاف عصمت دری کا کیس درج کرایا۔ یہاں میڈیا کی تعریف کرنی ہوگی کہ وہ حرکت میں آیا اور معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسارام عزت و رفعت کے اوج تریا سے ذلت و خواری کے قعر عمیق میں جا گرا اور پھر اس کے بیٹے سائیں رام کی بھی میڈیا نے قاعدے سے خبر لی، ایسے ہی ”تہلکہ“ مگنرین کے ایڈیٹر ترون تیج پال اور جسٹس گانگولی کی جنسی زیادتی کی حقیقت منظر عام پر اس لیے آسکی کہ میڈیا نے پھرتی دکھائی۔

(۳) فسادات کی کورتج:

گوپوری غیر جانب داری کے ساتھ فسادات کی کورتج نہیں ہو پاتی، تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اگر ۲۰۰۲ کے گجرات فسادات

(۶) حد سے زیادہ اشتہار:

مادہ پرستی کے بھوت نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کے افسر کو اپنی ذمہ داری کا احساس کم اور زیادے سے زیادہ بینک بلینس بنانے کی خواہش زیادہ رہتی ہے۔ ایسی صورت حال میں میڈیا اس سے کیوں کر اچھوت رہ سکتا تھا؟ چنانچہ بیش از بیش دولت ہتھیانے کے معاملے میں یہ بھی دوسروں سے پیچھے نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک اخبار میں جتنی گنجائش اشتہارات کی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اشتہارات دیے جاتے ہیں، جس سے اخبار اپنی دولت کی بھوک مٹاتا ہے۔

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہو اور اخبار جتنا چاہیے ایڈ دے، مگر اخبار کے مستقل صفحات کے علاوہ اس مقصد کے لیے کچھ صفحات مخصوص ہوں، جو اس غرض کے لیے استعمال کے جائیں، ظاہر ہے جب کسی نیوز پیپر کے پرائمٹ پیج پر جتنا زیادہ اشتہار آئے گا اتنی ہی کم خبر چھپ پائے گی، جو میڈیا کے مقصد اصلی سے متصادم ہے۔

(۷) پیڈ نیوز کی لعنت:

ایک ایسے ماحول میں جب کہ رشوت ستانی عروج پر ہو میڈیا سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بہتی گنگا میں ڈبکی نہ لگائے۔ ہاں یہاں یہ فرق ضرور ہے کہ اسے رشوت کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ ”پیڈ نیوز“ کے عنوان سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے تحت کوئی بھی ٹی وی چینل یا اخبار، فرد یا جماعت سے موٹی رقم وصول کرتا ہے اور پھر اس کی خواہش کے مطابق خبر شائع کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اس طرح کی مارکیٹنگ ہونے لگے تو پھر وہاں سچائی کی امید پالنے سے سوائے حسرت و یاس کے اور کیا ہاتھ آ سکتا ہے۔

(۸) بڑے لوگوں کا خیال اور لاچاروں سے بے اعتنائی:

یہاں میڈیا کی ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ وہ واقعے کی سنگینی یا متعلق کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ حادثے سے متعلق کون ہے، اگر واقعہ صاحب طاقت کا ہے تو اسے شائع کیا جاتا ہے ورنہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔

دسمبر ۲۰۱۲ میں پیرامیڈکل کی ایک طالبہ کی اجتماعی عصمت دری ہوئی تھی، اس واقعے سے نہ صرف ملک ہل گیا تھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بدنامی بھی جھیلنی پڑی تھی میڈیا نے اسے اتنا زیادہ اچھالا اتنی ہائے توبہ مچائی کہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ہمارا میڈیا یقیناً اس طرح کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ وہ جرم کو منظر عام پر لا کر ملزم کو سزا دلوا کر رہے گا۔

پرست تنظیمیں مثلاً آریس ایس، وشوہندو پریشد غیرہ ایک عرصہ سے تخریب کاری میں مبتلا ہیں مگر میڈیا نے کبھی بھی ان کی سرگرمیوں کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا۔ اور اس کے برخلاف میڈیا نے ”انڈین مجاہدین“ نام کی ایک ایسی فرضی تنظیم گڑھ رکھی ہے، جس کے وجود کا اثبات ہمیشہ سے میڈیا کے لیے درد سر رہا ہے۔ اس خیالی جتھے نے میڈیا اور تفتیش کار دونوں کا کام نہایت آسان کر دیا ہے اور باقی کام میڈیا اپنے سر لے لیتا ہے۔

ابھی حال ہی میں میڈیا نے مصر کی سیاسی تنظیم ”انخوان المسلمین“ پر کرم فرمائی کرتے ہوئے اسے ”دہشت گردی“ کی ڈگری عطا کی ہے۔

ان نوازشات پر کون نہ مر جائے، اے خدا!

ذیل میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جس سے میڈیا کی ہندونوازی کا بہت حد تک اندازہ لگایا جاسکتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ: اپریل ۲۰۰۲ء میں ”بجنگ دل“ اور ”وشوہندو پریشد“ کے مشہور کارکن کے گھر میں بم سازی کے وقت دو آدمی کی موت ہو گئی۔ پولیس والوں نے جائے حادثہ سے بچ نکلنے والے ایک عینی شاہد سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے Brain Mapping میں یہ قبول کیا کہ اس واقعہ میں مرنے والے لوگوں نے ہی ۲۰۰۲ میں پر بھنی مسجد کے باہر دھماکہ کیا تھا۔ اعتراف کی اس خبر کو میڈیا نے کوئی اہمیت نہ دی (دیتا بھی کیسے؟ وہ تو اس کی پالیسی سے متصادم تھا) ممکن ہے، کچھ اخبارات نے مختصر سرخی لگا کر کہیں چھاپ دیا ہو۔

(بحوالہ میڈیا روپ اور بہروپ، ص: ۵۱)

مگر ان سب کے باوجود خوشی کا مقام یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ”حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے“ کے مطابق ہیمنت کر کرے جیسے حقیقت پسند پولیس افسر نے کافی حد تک ہندو دہشت گردی کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اور ابھی حال ہی میں سبھاش گتاڑے نے کر کرے کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندو تخریب کاری پر انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے۔ ”گوڈ سے کی اولاد بھگوا دہشت گردی“ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی منظر عام پر آچکا ہے۔

(۵) عوامی مسائل کے بجائے رنگینیوں پر زور:

میڈیا کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ حکومت کی سرگرمیوں سے عوام کو باخبر رکھے، نیز ان کی پریشانیوں کو منظر عام پر لائے تاکہ گورنمنٹ ان کے حل کی سعی کرے۔ لیکن افسوس! آج میڈیا عوامی مسائل پر اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی اسے دینی چاہیے تھی۔ اس کے برخلاف فلمی اداکاروں، اور کھلاڑیوں کی نجی زندگی سے متعلق امور سے میڈیا زیادہ دل چسپی رکھتا ہے۔ جن سے لوگ کچھ لمحے کے لیے لطف اندوز تو ضرور ہو جاتے ہیں مگر ان بے چاروں کا اس سے کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہوتا، لیکن واضح رہے کہ میڈیا کی اس خامی کے لیے ہمارا بدلتا رویہ بھی کچھ کم ذمہ دار نہیں ہے۔

اخبارات میں ان کے خلاف مضامین لکھے جاتے ہیں، خبریں چھپتی ہیں اور ٹیلی ویژن پر رات دن ان بے گناہوں کو مجرم ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہی لوگوں کی نگاہوں میں دہشت گرد معلوم ہوتے ہیں اور یہ سب کرم فرمائیاں میڈیا کی ہوتی ہیں۔

حد تو اس وقت ہوتی ہے جب عدالت ایسے لوگوں کو رہا کرتی ہے۔ تب میڈیا کو سانپ سونگھ لیتا ہے۔ اولاً تو برات کی وہ خبر چھاپی ہی نہیں جاتی اور اگر احساس ذمہ داری نے بہت مجبور کر دیا تو کسی کو نے میں مختصر سرخی لگا کر سبک دوشی کا جشن منایا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ میڈیا ٹرائل کا صرف یہی نقصان نہیں ہے کہ اس کے سبب پولیس اپنے فرض کی ادائیگی میں سستی برت رہی ہے، بلکہ اس کا بھی بھیانک اندیشہ رہتا ہے کہ جب ایک بے گناہ آدمی دہشت گرد ثابت کر دیا جاتا ہے تو عدلیہ سے چھوٹنے کے بعد ممکن ہے کہ نا سمجھی میں وہ اسے حقیقت میں بدلنا چاہے۔

(۳) مدارس اسلامیہ نشانے پر:

یوں تو شروع سے اسلامی مدرسے میڈیا کی نظر میں کانٹا بن کر چھتے رہے ہیں، مگر کچھلی دہائی سے میڈیا نے ان کے خلاف کھلم کھلا محاذ کھول رکھا ہے۔ مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ بتانا، میڈیا کی دل چسپی کا خاص سامان رہا ہے۔ مگر شکر ہے اللہ عزوجل کا کہ سر توڑ کوشش کے باوجود اب تک اسے ثابت کرنے میں میڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے پھر بھی اس نے سعی لا حاصل میں کبھی کمی نہیں کی۔ چنانچہ ۲۴ فروری ۲۰۰۲ کے شمارے میں ہندی کے مشہور اخبار ”دینک جاگرن“ میں ہر دیہ نارائن دیکشت ”مدرسہ تعلیم کے نقصانات“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”اسلام اور مدرسہ تعلیم میں قوم، قومیت اور دلش بھکتی کے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ یہ مدرسے قومیت مخالف پلٹنیں تیار کرنے والے اسکول ہیں۔ آئی ایس آئی، سی سی القاعدہ جسی خطرناک تنظیموں اور مدرسے تعلیم کے مقاصد الگ نہیں ہیں، یہ سب اسلامی دنیا کی تعمیر و تشکیل میں لگے ہیں اور ہندوستان ان کا پہلا نشانہ ہے۔ ہندوستان میں نئے اورنگ زیب غوری اور غزنوی پیدا کرنا مدرسہ تعلیم کا مقصد ہے۔“

(بحوالہ میڈیا روپ اور بہروپ، ص ۱۶-۰۲)

(۴) ہندو جانب داری:

وہی میڈیا جو دہشت گردی کو ملک کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی ہندو اس طرح کے واقعہ میں ملوث ہوتا ہے تو وہ کس طرح چپی سادھ لیتا ہے۔ میڈیا کی ہندو دوستی کا عالم یہ ہے کہ بہت سی فرقہ

سمجھتے ہیں، تاہم یہ بھی سچائی ہے کہ اس نے بہت سے معاملات میں غیر جانب دار رہ کر اپنے مثبت کردار کو اجاگر کیا ہے۔ ذیل میں دونوں کرداروں پر قدرے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔
 ”الاكثر اقدم“ کے مطابق پہلے میڈیا کا منفی رول ملاحظہ کریں۔

(۱) اسلام دشمنی:

ہندوستانی معاشرے میں میڈیا کے منفی رول نبھانے کی سب سے بری مثال اس کی اسلام دشمنی ہے۔ اسلام کے قوانین اور تعزیرات کو وحشیانہ گردانا، اسلامی حجاب کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ماننا اور جہاد کو دہشت گردی سمجھنا اور اس کا پروپیگنڈہ کرنا میڈیا نے اپنا فرض منصبی خیال کر رکھا ہے۔ جب کہ اسلامی اصول سرتا پا رحمت ہیں، اور ہر وہ شخص اس کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے، جو مذہبی عصیت اور جانب داری سے پاک ہو، جیسا کہ ہم نے پچھلے سال مشہور زمانہ ”نر بھیا کیس“ میں سزا کی تجویز کے حوالے سے دیکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ موقع پرستی بقول شاعر:

جب دیار نچ بتوں نے تو خدا یاد آیا
 کے مطابق تھی۔

ذیل میں انگریزی روزنامہ ”ہندوستان ٹائمز“ کا ایک اقتباس نذر قارئین ہے، پڑھیں اور غور کریں کہ اخبار نے کس قدر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ اخبار لکھتا ہے:

”مذہبی ہٹ دھرمی اور اسلامی بنیاد پرستی سے بھی ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دوسری جنگ عظیم سے قبل فاشسٹوں سے تھا۔ افغانستان سے ایران، عراق، سعودی عرب اور مصر تک کے ملکوں کے سماجی اور سیاسی حالات پر نظر ڈالنے سے حکومتوں کے جابرانہ نظام کا پتہ چلتا ہے اور اسلامی کٹر پن سے یہ صورت حال اور بھی بوجھل ہو گئی ہے۔“

(بحوالہ۔ میڈیا، روپ اور بہروپ، ص: ۳۴)

(۲) میڈیا ٹرائل:

ہندوستانی پولیس اور تفتیش کاروں کو بڑا آرام ہے، اس لیے کہ انھیں دہشت گردانہ واقعات کے بعد حقیقی مجرمین کو تلاش کرنا نہیں پڑتا، یہاں ایک پرانا نسخہ ہے، جس کی روشنی میں ذمہ داروں تک رسائی ہو جاتی ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات کے انجام دینے والے وہ افراد ہوتے ہیں جو اسلامی نام کے حامل ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا، کہیں بھی دھماکہ ہو، چاہے مزار میں یا مسجد میں، شہبے کی بنا پر کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آگے کی ذمہ داری ”وفادار“ میڈیا اپنے کندھوں پر اٹھالیتا ہے۔

میڈیا کی بے ہودگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سنسنی خیزی کو بری طرح بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے غیر اخلاقی طریقہ کار اپنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی عصمت دری کی رپورٹنگ کرنی ہو اور واقعہ کی کوئی تصویر اس کے پاس نہ ہو تو فرضی کردار کے ذریعہ اس حادثے کی ایکٹنگ کروائی جاتی ہے اور ان کی تصویر کشی کر کے رپورٹ کے ساتھ اسے دکھایا جاتا ہے۔ Reenactment کے اس عمل میں اصل واقعہ اور اس کے اہم پہلوؤں کو دکھانے کے بجائے اس کی جنسی پہلوؤں کو زیادہ ابھارا جاتا ہے۔

میڈیا کی بدلتی ذہنیت:

ماضی قریب کے دو واقعات نے میڈیا کی ذہنیت کو کافی حد تک تبدیل کر دیا ہے وہ دو واقعے یہ ہیں: شہادت با بری مسجد (۶ دسمبر ۲۰۰۹ء) اور عالمی تجارتی مرکز (ورلڈ ٹریڈ سینٹر) پر حملہ (۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء) اول الذکر نے ہندوستانی میڈیا کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا موخر الذکر نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا کے حواس پر ۱۱-۹ کا حملہ چھایا ہوا ہے اور ہمارا میڈیا اس کی پیروی میں دوسرے ممالک کے میڈیا سے کوسوں آگے ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس کے پاس دو عینک ہیں، ایک عینک سے وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے، جس سے وہ دہشت گرد،؟ تخریب پسند اور دقیانوسی افکار و خیالات کے حامل نظر آتے ہیں اور دوسرا چشمہ وہ ہے جس سے بقیہ سارے لوگوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس میں بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد بھی بے گناہ دکھتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فکر و ذہنیت کو وطن پرستی کا نام دیا جاتا ہے اور غریبوں کی خون چسائی پر صنعت کاروں کے ظلم و جبر پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔

راقم کا عنوان دو حصے پر مشتمل ہے:

(۱) میڈیا (۲) ہمارا معاشرہ۔

میرے خیال میں مذکورہ بالا سطور میں موضوع کے پہلے جز پر کافی حد تک روشنی پڑ چکی ہے۔ اس لیے اب دوسرے حصہ یعنی ہندوستانی سماج میں اس کے کردار کی کچھ تفصیلات نذر قارئین ہیں۔

ہمارے معاشرے میں میڈیا کا کردار:

یہ صحیح ہے کہ ہر شے کے مثبت اور منفی دو پہلو ہوتے ہیں اور یہ کلیہ میڈیا پر بھی صادق آتا ہے، لیکن یہ بھی حق ہے کہ آج مسلمانوں کے تئیں ہندوستانی میڈیا کا منفی کردار اس قدر غالب ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ اسے سب و شتم کرنا اپنی ذمہ داری

ثابت کر سکتا ہے، جیسا کہ Malclom X نے کہا تھا کہ:

“The media, the most powerful entity on earth, they have the power to make the innocent guilty, and the guilty innocent, because they control the minds of the masses.”

میڈیا کے اقسام:

(۱) یوں تو میڈیا کا آغاز اخبارات و رسائل کی صورت میں بہت پہلے ہوا ہے، اور ایک لمبے زمانے تک یہی لوگوں سے رابطے کا واحد ذریعہ بنا رہا اور اپنا کام بحسن و خوبی انجام دیتا رہا، جدید تقسیم کے مطابق اسے Print Media کہا جاتا ہے۔

(۲) پھر بیسویں صدی میں میڈیا میں اس وقت حیرت انگیز ترقی ہوئی، جب ٹیلی ویژن نے اپنی موجودگی عالم رنگ و بو میں درج کرائی، لیکن یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اس نے اپنا فرض منصبی کم اور مشرقی تہذیب و تمدن کو ملیا میٹ کرنے اور فحاشی و عریانیت کو فروغ دینے کا زیادہ کام کیا۔ یہ قسم ”Electronic Media“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔

(۳) اور اخیر میں موجودہ صدی میں میڈیا کی وہ نوع وجود پذیر ہوئی جسے ہم اور آپ ”Social Media“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یعنی فیس بک، ٹویٹر وغیرہ۔ اس طرح کی ایجادات کی افادیت سے کسی صاحب خرد کو مجال انکار نہیں، تاہم ہمیں اس حقیقت کے اعتراف سے منہ نہیں چرانا چاہیے کہ آج مدارس، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہی چیزوں میں الجھ کر اپنا مستقبل خود تار یک کر رہی ہے، نیز بہت سے فرقہ وارانہ فسادات اسی سوشل میڈیا کے رہن منت ہیں۔

میڈیا کی بے ہودگی:

جیسا کہ ماقبل میں عرض کیا گیا کہ ہندوستان میں ٹی وی چینلز کی بہتات ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان سخت مقابلہ آرائی ہے۔ اور یہ نبرد آزمائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنا TRP بڑھانے کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات Breaking News میں ایسی خبریں پیش کی جاتی ہیں کہ وہ اس زمرے میں تو درکنار کسی بھی مہذب سماج میں نیوز کا درجہ ہی نہیں رکھتیں۔



محمد حیدر رضا

ریسرچ اسکالر

فیکلٹی آف ایجوکیشن

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

میڈیا کارول اور ہمارا معاشرہ

میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہے اور یہ ستون آج انتہائی طاقت ور ہو گیا ہے، اتنا کہ اگر باقی تین ستونوں (مفتی، عاملہ، عدلیہ) میں سے کسی ایک میں ذرا بھی لغزش پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کو تھام لیتا ہے اور اس طرح جمہوریت کی عمارت پھر پہلے کی طرح محفوظ ہو جاتی ہے، یہاں میڈیا کو پوری آزادی حاصل ہے، جس سیاست داں سے چاہے سوال کر سکتا ہے۔

آج ہندوستان میں ۰۵۳ سے زیادہ ٹی وی چینل ہیں، جن میں تقریباً ۰۴ نیوز چینل ہیں۔ یہ میڈیا کافروغ ہی ہے کہ بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ٹیلی ویژن مارکیٹ بن گیا ہے۔

میڈیا کا تعارف:

آگے بڑھنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا کی اصل پر روشنی ڈالی جائے۔ ”Media“ اصل میں لاطینی زبان کے لفظ ”Medium“ کی جمع ہے اور Medium لاطینی زبان میں اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کو ڈھونڈے، منتقل کرے، لیکن انگریزی میں لفظ ”Media“ ”Plural“ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ ”Data“ لاطینی کے لفظ ”Datum“ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دی جائے، مگر انگریزی میں بطور واحد قبول کیا گیا ہے۔

آسان لفظوں میں اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے۔

“Media is the means to communicate the mass”

یعنی میڈیا لوگوں سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔

میڈیا کی اہمیت:

اب جب کہ مارشل میکلوہان کے مطابق آج کی دنیا ”عالمی گاؤں“ (Global Village) میں تبدیل ہو گئی ہے، میڈیا کی اہمیت پر زیادہ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، تاہم راقم اتنا ضرور عرض کرے گا کہ میڈیا کی اہمیت اور اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، مجرم کو بے قصور اور بے قصور کو قصور وار

(اردو سیکشن)

فہرست مضامین

۹-۱	محمد حیدر رضا	میڈیا کارول اور ہمارا معاشرہ	۱
۱۳-۱۰	ڈاکٹر ضیاء فاطمہ	تہذیب نسواں (سر سید احمد خاں کا تجویز کردہ نام)	۲
۱۵-۱۴	ڈاکٹر راحت زمانی، پٹنہ	بنتِ حوا کے نام	۳
۱۸-۱۶	حسنی صدیقی	پروفیسر صادقہ ذکی - ایک شخصیت	۴
۱۹	مظہر الحق	اور وہ مسکرا رہی تھی	۵
۲۳-۲۰	حسنی صدیقی	یادِ ماضی	۶
۲۷-۲۴	مسعود الحق	تھوڑے لکھے کو بہت سمجھنا	۷
۲۸	محمد اکرام انصاری	استاد	۸



سالانہ میگزین ۲۰۲۳

الحق ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ

(REG: 451)

Education


Unity & Integrity

Employment

Environment

Creativity

Love for Mankind





سالانہ میگزین ۲۰۲۳

الحق ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ

(REG: 451)



شرابِ رُوح پرورد ہے محبتِ نوری انسان کی سیکھایا اس نے مجھ کو مست بجا م و سپور ہونا